

Arabic Vocabulary



LEARNING THROUGH  
**AUDIO VISUAL**

VOLUME  
**3**

Arabic Conversation

**GOOD NEWS**  
For Grade 4 & 5

**Easy Techniques Of Memorising**

Prepared and Recited by

شيخ ارشد بشير عمري مدني سلمه الله

**Shaikh Arshad Basheer Umari Madani**

Hafiz, Aalim, Faazil (Madina University, KSA), MBA  
Founder & Director of AskIslamPedia.com  
Chairman: Ocean The ABM School, Hyd. India.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حقوق الطبع محفوظة

All Rights Reserved with Publisher®

AskIslamPedia.com - Academic Wing  
under the supervision of

## Shaikh Arshad Basheer Umari Madani

Hafiz, Alim, Fazil (Madina University, K.S.A), M.B.A.;  
Founder & Director of AskIslamPedia.com  
Chairman: Ocean The ABM School, Hyd. India.  
+91 92906 21633 (WhatsApp only)

[www.abmqurannotes.com](http://www.abmqurannotes.com) | [www.askislampedia.com](http://www.askislampedia.com)  
[www.askmadani.com](http://www.askmadani.com)





## مقدمہ

د لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

عربی زبان میں قرآن و حدیث کو نازل کیا گیا ہے اس لیے اس زبان کا جاننا ہر مسلمان کے لیے اہم ہے؛ کسی بھی زبان کو سیکھنے اور بولنے کے لیے ذخیرہ الفاظ کا ہونا انتہائی ضروری ہے، طلبہ کو اس زبان کی طرف راغب کرنے کے لیے میں نے 6000 قرآنی کلمات کے ذخیرہ پر ۶ جلد پر مشتمل کتاب تیار کی ہے؛ قرآنی کلمات کے جمع و ترتیب کے ساتھ ساتھ عربی کے روزمرہ استعمال ہونے والے کلمات اور محادثات (گفتگو) کے جمع کا کام بھی جاری تھا جو الحمد للہ مکمل ہوا، زیر نظر کتاب میں بنیادی اور روزمرہ استعمال ہونے والے عربی الفاظ و محادثات کو بہت خوبصورت انداز میں جمع کیا گیا ہے؛ اور ساتھ ہی اس کو میں نے اپنی آواز بھی دی ہے تاکہ طلبہ سن کر ذہن نشین کر لیں اور انہیں یاد کرنے میں سہولت ہو سکے۔ الحمد للہ پہلے مرحلے (volume no: 1) میں چھوٹے بچوں کے لیے محادثات کے سطور کے ساتھ ۳۱۳ الفاظ رکھے گئے ہیں؛ دوسرے اور تیسرے مرحلے (2nd & 3rd volumes) میں بڑی مقدار میں کلمات و محادثات پیش کیے گئے ہیں اور سہ لسانی (انگریزی، اردو، رومن) میں مواد پیش کیا گیا ہے۔

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس کاوش کو قبول فرمائے اور جملہ متعلقین کو ثواب جاریہ عطا فرمائے۔ آمین

والسلام

حافظ ارشد بشیر عمری مدنی

## Preface

To highlight the virtue of the Arabic language it is sufficient to note that it is the language of the Qur'aan and Sunnah. Muslims have to learn this language as much as they need for Islamic purposes. Vocabulary is central to any language learning because without sufficient vocabulary students cannot understand or express their own ideas. Therefore, I have written a book comprising of 6 Volumes which includes 6000 Quranic Words. Besides this, I have also compiled those Arabic words and phrases which are commonly used in our daily lives in a beautiful manner. I have also recorded those words in my voice so that it becomes easy for the students to revise and memorize it by listening.

In the first level i.e. Volume 01, 313 words have been added along with the lines of phrases for the kids.

In the next levels i.e. Volume 02 and Volume 03, numerous words and phrases have been added.

All the above mentioned information has been provided in plain languages i.e. English, Urdu and Roman.


**I beseech Allaah to accept my efforts and reward all of my relatives.**

**Ameen**

Muallim : Arshad Basheer Madani

Founder : [www.askislampedia.com](http://www.askislampedia.com), [www.abmqurannotes.com](http://www.abmqurannotes.com)

Assalamualaikum



Author:

الشيخ ارشد بشير عمري مدني سئل الله

## Shaikh Arshad Basheer Umari Madani

Hafiz, Aalim, Faazil (Madina University, KSA), MBA.

Founder & Director of AskIslamPedia.com | Chairman: Ocean The ABM School, Hyd.

+91 92906 21633 (whatsapp only)

[www.abmqurannotes.com](http://www.abmqurannotes.com) | [www.askislampedia.com](http://www.askislampedia.com) | [www.askmadani.com](http://www.askmadani.com)



| Sl. No. | Topic                                | Page No. |
|---------|--------------------------------------|----------|
| 1.      | <b>Arabic Vocabulary</b>             | 1        |
| 2.      | <b>Arabic Conversation</b>           | 9        |
| 3.      | <b>Lesson 1</b>                      | 10       |
| 4.      | <b>Lesson 2</b>                      | 15       |
| 5.      | <b>Lesson 3</b>                      | 22       |
| 6.      | <b>Lesson 4</b>                      | 29       |
| 7.      | <b>Lesson 5</b>                      | 35       |
| 8.      | <b>Lesson 6</b>                      | 41       |
| 9.      | <b>Lesson 7</b>                      | 45       |
| 10.     | <b>Lesson 8</b>                      | 59       |
| 11.     | <b>Lesson 9</b>                      | 65       |
| 12.     | <b>Lesson 10</b>                     | 75       |
| 13.     | <b>Lesson 11</b>                     | 79       |
| 14.     | <b>Lesson 12</b>                     | 89       |
| 15.     | <b>Lesson 13</b>                     | 90       |
| 16.     | <b>Lesson 14</b>                     | 98       |
| 17.     | <b>Lesson 15</b>                     | 106      |
| 18.     | <b>Lesson 16</b>                     | 110      |
| 19.     | <b>Lesson 17</b>                     | 113      |
| 20.     | <b>Muallim Guide</b>                 | 141      |
| 21.     | <b>Communication Skills</b>          | 145      |
| 22.     | <b>6 Dimensions</b>                  | 148      |
| 23.     | <b>9 Advices to learn a language</b> | 153      |



خزانة الكلمات العربية


عربي الفاظ

# Arabic Vocabulary





## الكلمات العربية



| School         | اردو                        | اسكول                | المدرسة                     |
|----------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|
| ENGLISH        | اردو                        | ROMAN                | عربي                        |
| Kindergarten   | نرسرى اسكول                 | Rauzatul atfaal      | رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ       |
| School         | اسكول                       | Madrasah             | مَدْرَسَةٌ                  |
| Primary school | پرائمرى اسكول               | Madrasah ibtidaiyyah | مَدْرَسَةٌ اِبْتِدَائِيَّةٌ |
| Middle school  | مڈل اسكول                   | Madrasah e'daadiyyah | مَدْرَسَةٌ اِعْدَادِيَّةٌ   |
| High school    | هائى اسكول                  | Madrasah saanawiyah  | مَدْرَسَةٌ ثَانَوِيَّةٌ     |
| College        | كالج                        | Kulliyah             | كَلِيَّةٌ                   |
| University     | يونيورسٽى                   | Jaamiah              | جَامِعَةٌ                   |
| Institute      | انسٽيٽيوٽ                   | Ma'had               | مَعْهَدٌ                    |
| Class          | كلاس                        | Fasl                 | فَصْلٌ                      |
| Tutor/ teacher | استاذ                       | Mu'allim             | مُعَلِّمٌ                   |
| Teacher        | مدرس                        | Mudarris             | مُدْرِسٌ                    |
| Professor      | پروفيسر                     | Ustaaaz              | اُسْتَاذٌ                   |
| Student        | طالب علم                    | Taalib               | طَالِبٌ                     |
| Student        | شاگرد                       | Tilmeez              | تَلْمِيذٌ                   |
| Headmaster     | هيڈ ماسٽر / مہتمم، ڈائریکٹر | Mudeer               | مُدِيرٌ                     |
| Chancellor     | چانسلر                      | Raees                | رَيِّسٌ                     |

## الكلمات العربية

|                     |                   |                         |                             |
|---------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Dean/ principal     | ڈین / پرنسپل      | Ameed                   | عَمِيدٌ                     |
| Inspector           | انسپیکٹر          | Mufattish               | مُفْتِشٌ                    |
| Registrar           | رجسٹرار           | Musajjil                | مُسَجِّلٌ                   |
| Primary             | ابتدائی (پرائمری) | Ibtidaee                | إِبْتِدَائِيٌّ              |
| Preparatory         | اعدادی            | E'daadi                 | إِعْدَائِيٌّ                |
| Secondary           | ثانوی             | Saanawi                 | ثَانَوِيٌّ                  |
| School library      | اسکول لائبریری    | Maktabatul madrasah     | مَكْتَبَةُ الْمَدْرَسَةِ    |
| Laboratory          | لسبارٹری          | Ma'mal                  | مَعْمَلٌ                    |
| Technical institute | ٹیکنیکی ادارہ     | Ma'had fanni            | مَعْهَدٌ فَنِّيٌّ           |
| Academy             | اکیڈمی            | Majma' ilmi             | مَجْمَعٌ عِلْمِيٌّ          |
| Register            | رجسٹر             | Sijil                   | سِجِلٌ                      |
| Note book           | نوٹ بک / کاپی     | Kurraasah               | كُرَّاسَةٌ                  |
| Fountain pen        | فائونٹین پین      | Qalamu hibrin saaelin   | قَلَمٌ حَبْرِيٌّ سَائِلِيٌّ |
| Ball point pen      | بال پوائنٹ پین    | Qalamu hibrin naashifin | قَلَمٌ حَبْرِيٌّ نَاشِفِيٌّ |
| Pencil              | پنسل              | Qalamu rasaas           | قَلَمٌ رَصَاصِيٌّ           |
| Scale               | اسکیل             | Mistarrah               | مِسْطَرَةٌ                  |
| Book                | کتاب              | Kitaab                  | كِتَابٌ                     |
| Dictionary          | ڈکشنری            | Qaamoos                 | قَامُوسٌ                    |
| Rubber/ Eraser      | ربر               | Mimhaah/ mahhaayah      | مِمْحَاةٌ \ مَحَايَةٌ       |
| Pencil sharpener    | تراش              | Barraayah               | بَرَّايَةٌ                  |
| Inkpot              | دوات              | Mihbarah                | مِحْبَرَةٌ                  |
| Ink                 | روشائی            | Hibr                    | حَبْرٌ                      |
| Blotter - Blotting  | سیاہی چوس، جاذب   | Nashshaafah             | نَشَّافَةٌ                  |

## الكلمات العربية

|                   |                  |                     |                           |
|-------------------|------------------|---------------------|---------------------------|
| Lecturer          | لیکچرر           | Muhaazir            | مُحَاَضِرٌ                |
| Professor         | پروفیسر          | Ustaaz              | أُسْتَاذٌ                 |
| Doctor            | ڈاکٹر            | Tabeeb              | طَبِيبٌ                   |
| Surgeon           | سرجن             | Jarraah             | جَرَّاحٌ                  |
| Dentist           | ایٹوں کا ڈاکٹر   | Tabeebu asnaan      | طَبِيبُ أَسْنَانٍ         |
| General Physician | جنرل فزیشن       | Tabeebu aam         | طَبِيبٌ عَامٌّ            |
| Eye- specialist   | آنکھوں کا ڈاکٹر  | Tabeebu uyoon       | طَبِيبٌ عُيُونٍ           |
| Veterinary doctor | مویشیوں کا ڈاکٹر | Tabeebu baitari     | طَبِيبٌ بَيْطَرِيٌّ       |
| Nurse             | نرس              | Mumarrizah          | مُمَرِّضَةٌ               |
| Specialist        | اسپیشلسٹ         | Akhsaaee            | أَخْصَائِيٌّ              |
| Accountant        | اکاؤنٹینٹ        | Muhaasib            | مُحَاسِبٌ                 |
| Book- Keeper      | بک کیپر          | Maasiku dafaatir    | مَاسِكُ دَفَاتِرٍ         |
| Auditor           | آڈیٹر            | Mudaqqiqu hisaabaat | مُدَقِّقُ حِسَابَاتٍ      |
| Judge             | جج               | Qaazi               | قَاضٍ (أَلْقَاضِيٌّ)      |
| Chief justice     | چیف جسٹس         | Raeesul quzaah      | رَئِيسُ الْقُضَاةِ        |
| Advocate/ Lawyer  | وکیل             | Muhaami             | مُحَامٍ (أَلْمُحَامِي)    |
| Draftsman         | ڈرافٹس مین       | Rassaam             | رَسَّامٌ                  |
| Actor             | اداکار           | Mumassil            | مُمَثِّلٌ                 |
| Actress           | اداکارہ          | Mumassilah          | مُمَثِّلَةٌ               |
| Photographer      | فوٹو گرافر       | Musawwir            | مُصَوِّرٌ                 |
| Producer          | پروڈیوسر         | Mukhrij             | مُخْرِجٌ                  |
| Cameraman         | کیمرامین         | Musawwir            | مُصَوِّرٌ (سِينِمَايِيٌّ) |
| Soldier           | فوجی             | Jundi               | جُنْدِيٌّ                 |



## الكلمات العربية

|                        |                      |                     |                           |
|------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|
| Policeman              | پولیس                | Shurti              | شُرْطِيّ                  |
| Announcer              | اناؤنسر              | Muzee'              | مُذْبِع                   |
| Businessman            | تاجر                 | Taajir              | تَاجِر                    |
| Magician               | جادوگر               | Saahir-musha'wiz    | سَاحِرٌ - مُشْهُوِّذٌ     |
| poet                   | شاعر                 | Shaaer              | شَاعِر                    |
| Bank clerk             | بنک کا ملازم         | Muwazzaf fil masraf | مُوَظَّفٌ فِي الْمَصْرَفِ |
| Contractor             | عھکيدار              | Muqaawil            | مُقَاوِل                  |
| Book binder            | جلد ساز              | Mujallidul maktab   | مُجَلِّدُ الْمَكْتَبِ     |
| Pharmacist/ chemist    | دوا فروخت کرنے والا  | Saidali             | صَيْدَلِيّ                |
| Politician             | سیاستداں             | Siyaasi             | سِيَّاسِيّ                |
| Landlord               | زمیندار              | Maalikul arz        | مَالِكُ الْأَرْضِ         |
| Novelist/ Story Writer | ناول نگار            | Riwaace             | رِوَايِيّ                 |
| Builder                | معمار                | Bannaa'             | بَنَّاءٌ                  |
| Greengrocer            | سبزی فروش            | Baaeu khuzaar       | بَاعِعُ خُضَارٍ           |
| Gardener               | باغبان / مالی        | Buštaani            | بُسْتَانِيّ               |
| Florist                | گل فروش              | Baaeu azhaar        | بَاعِعُ أَزْهَارٍ         |
| Salesman               | سیلز مین             | Baae'               | بَاعِع                    |
| Sailor/ Seaman         | کشتی بان / ملّاخ     | Bahhaarah           | بَحَّارَةٌ                |
| Newspaper vendor       | اخبار بیچنے والا     | Baaeus suhuf        | بَاعِعُ الصُّحُفِ         |
| Hawker                 | پھیری والا           | Baaeu mutajawwil    | بَاعِعُ مُتَجَوِّلٍ       |
| Retailer               | خرده فروش / چوں فروش | Baaeu bittajzi'ah   | بَاعِعٌ بِالتَّجْرِئَةِ   |
| Shoe maker / cobbler   | موچی                 | Iskaaf              | إِسْكَافٌ                 |
| Blacksmith             | لوہار                | Haddaad             | حَدَّادٌ                  |

## الكلمات العربية


|                      |                 |                        |                              |
|----------------------|-----------------|------------------------|------------------------------|
| Baker                | نان بانى        | Khabbaaz               | خَبَّازٌ                     |
| Barber / Hairdresser | نانى            | Hallaaq                | حَالِقٌ                      |
| Confection           | حلوانى          | Halwaani               | حَلْوَانِيٌّ                 |
| Greengrocer          | سبزی فروش       | Khuzri                 | خُضْرِيٌّ                    |
| Turner               | خراڊيہ          | Kharraat               | خَرَّاطٌ                     |
| Watchman/ guard      | چوکیدار         | Haaris                 | حَارِسٌ                      |
| Butcher              | قصابى           | Jazzaar                | جَزَّازٌ                     |
| Weaver / knitter     | جولابا          | Haaek                  | حَاپِكٌ                      |
| Shoe maker           | جوتا بنانے والا | Hazzaa'                | حَدَّاءٌ                     |
| Jeweler              | جوہری           | Jauhari                | جَوْهَرِيٌّ                  |
| Servant / Waiter     | خادم            | Khadim                 | خَادِمٌ                      |
| Treasurer            | خزائنى          | Khazin                 | خَازِنٌ                      |
| Craftsman / artisan  | دستکار          | Hirafi                 | حِرْفِيٌّ                    |
| Potter               | کھار            | Kharraaf               | خَرَّافٌ                     |
| Coachman             | کوچوان          | Hoozi                  | خُوذِيٌّ                     |
| Milkman              | گولا            | Hallaab – baeul haleeb | حَالِبٌ – بَابِعُ الْحَلِيبِ |
| Tailor               | درزى            | Khayyaat               | خَيْطَاتٌ                    |
| Porter               | قلی             | Hammaal                | حَمَّالٌ                     |
| Oil Seller           | تیلے            | Zayyaat                | زَيَّاتٌ                     |
| Painter              | پینٹر           | Dahhaan                | دَهَّانٌ                     |
| Broker/ agent        | بروکر ایجنٹ     | Simsaar                | سِمْسَارٌ                    |
| Watchmaker           | گھڑی ساز        | Saa'aati               | سَاعَاتِيٌّ                  |

## الكلمات العربية

|                   |                  |                                 |                                       |
|-------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| Plumber           | پلمبر            | Samkari                         | سَمَكْرِي                             |
| Butter merchant   | گھی فروش         | Sammaan                         | سَمَّان                               |
| Driver            | ڈرائیور          | Saaeq                           | سَاعِق                                |
| Dyer              | رنگ ریز          | Sabbaagh                        | صَبَّاع                               |
| Cobbler           | موچی             | Saaneu ahziyah                  | صَانِعْ أَحْذِيَّة                    |
| Fisherman         | مچھیرا           | Sammaak                         | سَمَّاك                               |
| Locksmith         | تالے بنانے والا  | Saaneu aqfaal                   | صَانِعْ أَقْفَال                      |
| Shopkeeper        | دکاندار          | Saahibu matjar                  | صَاحِبْ مَتْجَر                       |
| Postman           | ڈاکیر            | Saael bareed                    | سَاعِي الْبَرِيد                      |
| Goldsmith         | سٹار، زرگر       | Saae'                           | صَاعِ                                 |
| Glassmaker        | شیشہ لگانے والا  | Zajjaaj                         | زَجَّاج                               |
| Typist            | ٹائپسٹ           | Zaarib alal aalatil<br>kaatibah | صَارِبْ عَلَيَّ الْآلَةِ الْكَاتِبَةِ |
| Miller            | پکی والا         | Tahhaan                         | طَهَّان                               |
| Labour            | مزدور            | Aamil                           | عَامِل                                |
| Seller of perfume | عطر فروش         | Attar                           | عَطَّار                               |
| White Washer      | سفیدی کرینے والا | Tarraash                        | طَرَّاش                               |
| Pressman/ printer | چھاپنے والا      | Tabbaa'                         | طَبَّاع                               |
| cook              | باورچی           | Tabbaakh                        | طَبَّاح                               |
| Laundryman        | دھوئی            | Ghassaal                        | عَسَّال                               |
| Docker            | گودی مَرور       | Aamilu raseefil meenaa'         | عَامِلْ رَصِيفِ الْمِينَاءِ           |
| Coal miner        | کان کن           | Aamilun fi manjam               | عَامِلْ فِي مَنْجَم                   |
| Welder            | ویلڈر            | Lihaam                          | لِحَام                                |

## الكلمات العربية

|                       |                            |                             |                                     |
|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| Conductor             | کنڈکٹر                     | Qaatiut-tazaakir            | قَاطِعُ السَّكَاكِرِ                |
| Dramatist/ Playwright | ڈرامہ نگار                 | Kaatib masrahi              | كَاتِبُ مَسْرُوحِيٍّ                |
| T.T.E                 | ٹی ٹی ای                   | Qaatiut-tazaakir fil qitaar | قَاطِعُ السَّكَاكِرِ فِي الْقِطَارِ |
| Farmer                | کسان                       | Fallaah                     | فَالَّاحُ                           |
| Sweeper               | جاروب کش / جھاڑو دینے والا | Kannaas                     | كَنَّاشٌ                            |
| Electrician           | الیکٹریشن                  | Kahrabaae                   | كَهْرَبَائِيٌّ                      |
| Artist                | آرٹسٹ                      | Fannaan                     | فَنَّانٌ                            |
| Waiter                | ویٹر                       | Jarsoon – nidl              | جَرَسُونٌ – نِدْلٌ                  |
| Carpenter             | بڑھئی                      | Najjaar                     | نَجَّارٌ                            |
| Upholsterer           | صوفہ ساز                   | Munajjid                    | مُنَجِّدٌ                           |
| Vaccinator            | چیچک کے ٹیکے لگانے والا    | Mulaqqih                    | مُلَقِّحٌ                           |
| Stableman             | اصطبل دار                  | Saaesu khuyool              | سَااِسُ خُيُولٍ                     |
| Sculptor/ carver      | سگ تراش                    | Nahhaat                     | نَحَّاتٌ                            |
| Mechanic/ operator    | مشین آپریٹر                | Aamilu mikaaniki            | عَامِلٌ مِيكَانِيكِيٍّ              |
| Sailor/ seaman        | مانجھی                     | Nooti                       | نُوتِيٌّ                            |
| Clown/ joker          | جوکر - مسخرہ               | Muharrij                    | مُهْرَجٌ                            |



# سلسلة المحادثات باللغة العربية

للمناهج الدراسية بالمدارس للعلوم العصرية والشريعة

عربي گفتگو


Arabic  
Conversation





# LESSON

# 1





## LESSON - 1

مَا هَذَا (هَذِهِ) + قَلَمٌ / كُرْسِيٌّ / مَكْتَبٌ / كُرْسِيٌّ

| What is this   | یہ کیا ہے؟   | مَا هَذَا (هَذَا/هَذِهِ) |
|--|--------------|--------------------------|
| مَا هَذَا (هَذِهِ) + قَلَمٌ / كُرْسِيٌّ / مَكْتَبٌ / كُرْسِيٌّ |              |                          |
| English  | Urdu         | Arabic                   |
| This is a pen  | یہ قلم ہے    | هَذَا قَلَمٌ             |
| This is a chair  | یہ کرسی ہے   | هَذَا كُرْسِيٌّ          |
| This is a desk   | یہ قلمدان ہے | هَذَا مَكْتَبٌ           |
| This is a note book  | یہ پوچھ ہے   | هَذِهِ كُرْسِيٌّ         |
| This is a bag  | یہ بیگ ہے    | هَذِهِ حَقِيْبَةٌ        |
| This is a mobile   | یہ موبائل ہے | هَذَا جَوَّالٌ           |

## LESSON - 1

مَا هَذَا (هَذِهِ) + قَلَمٌ / كُرْسِيٌّ / مَكْتَبٌ / كُرْسِيٌّ

|                     |              |                       |
|---------------------|--------------|-----------------------|
| This is an egg      | یہ انڈا ہے   | هَذَا بَيْضٌ          |
| This is a hen       | یہ مرغی ہے   | هَذِهِ دَجَاجَةٌ      |
| This is a chocolate | یہ چاکلیٹ ہے | هَذِهِ شُوكَاْلَاتَةٌ |
| This is a game      | یہ کھیل ہے   | هَذِهِ لُعْبَةٌ       |
| This is a horse     | یہ گھوڑا ہے  | هَذَا الْفَرَسُ       |
| This is a cat       | یہ بلی ہے    | هَذَا الْقَطُّ        |
| This is a cow       | یہ گائے ہے   | هَذِهِ الْبَقْرَةُ    |



## EXERCISES

### Animals الْحَيَوَانَاتُ

Qit / القِطُّ  
Cat / بلي



Baqarah / البَقْرَةُ  
Cow / گائے



Faras / الْفَرَسُ  
Horse / گھوڑا



Feel / الْفَيْلُ  
Elephant / ہاتھی



Kalb / الْكَلْبُ  
Dog / کتا



Timsah / التِّمْسَاحُ  
Alligator / مگر مچھ



## EXERCISES

### Animals الْحَيَوَانَاتُ

Arnab / الأَرْنَبُ  
Rabbit / خرگوش



Taa'er / الطَّائِرُ  
Bird / پرندہ



Zarafah / الزَّرَافَةُ  
Giraffe / ژراف



Feel / الْفَيْلُ  
Bear / رپچھ



Babru / البَبْرُ  
Lion / ببر



Asasd / الأَسَدُ  
Tiger / شیر



## EXERCISES

### Animals الْحَيَوَانَاتُ

Hayyah / الْحَيَّةُ  
Snake / سانپ



Fa'r / الْفَأْرُ  
Mouse / چوہا



Qird / الْقِرْدُ  
Monkey / بندر



Ghazaal / الْغَزَالُ  
Deer / ہرن





# LESSON

# 2



## LESSON - 2

هَذَا + مُعَلِّمٌ / هَذِهِ + مُعَلِّبَةٌ

| Who is this                              | یہ کون ہے    | مَنْ هَذَا؟        |
|--|--------------|--------------------|
| هَذَا + مُعَلِّمٌ / هَذِهِ + مُعَلِّبَةٌ |              |                    |
| English                                  | Urdu         | Arabic             |
| This is the teacher(male)                | یہ استاذ ہے  | هَذَا مُعَلِّمٌ    |
| This is the teacher(female)              | یہ استاذہ ہے | هَذِهِ مُعَلِّبَةٌ |
| This is the father                       | یہ والد ہے   | هَذَا أَبٌ         |
| This is the mother                       | یہ والدہ ہے  | هَذِهِ أُمٌّ       |
| This is the sister                       | یہ بہن ہے    | هَذِهِ أُخْتُ      |
| This is the brother                      | یہ بھائی ہے  | هَذَا أَخٌ         |

## LESSON - 2

# هَذَا + مُعَلِّمٌ / هَذِهِ + مُعَلِّبَةٌ

|                          |             |                 |
|--------------------------|-------------|-----------------|
| This is the grand father | یہ دادا ہے  | هَذَا جَدُّ     |
| This is the grand mother | یہ دادی ہے  | هَذِهِ جَدَّةٌ  |
| This is the doctor       | یہ ڈاکٹر ہے | هَذَا طَبِيبٌ   |
| This is the boy          | یہ لڑکا ہے  | هَذَا وَلَدٌ    |
| This is the girl         | یہ لڑکی ہے  | هَذِهِ بِنْتُ   |
| This is the husband      | یہ شوہر ہے  | هَذَا زَوْجٌ    |
| This is the wife         | یہ بیوی ہے  | هَذِهِ زَوْجَةٌ |



LESSON - 2

EXERCISES



## LESSON - 2

### EXERCISES

| English | Roman  | Urdu | Arabic   |
|---------|--------|------|----------|
| Father  | Ab     | باپ  | أَب      |
| Mother  | Um     | ماں  | أُمُّ    |
| Husband | Zauj   | شوہر | زَوْج    |
| Wife    | Zaujah | بیوی | زَوْجَةٌ |
| Son     | Ibn    | بیٹا | بِنُّ    |



## LESSON - 2


### EXERCISES

|             |         |           |          |
|-------------|---------|-----------|----------|
| Daughter    | Ibnah   | بِی       | إِبْنَةٌ |
| Brother     | Akh     | بھائی     | أَخٌ     |
| Sister      | Ukht    | بھین      | أُخْتُ   |
| Grandfather | Jad     | دادا      | جَدُّ    |
| Grandmother | Jaddah  | دادی      | جَدَّةٌ  |
| Uncle       | Am      | چاچا/تایا | عَمُّ    |
| People      | An-Naas | لوگ       | النَّاسُ |



# LESSON

# 3



## LESSON - 3

مَنْ هُوَ؟ مَنْ هِيَ؟ مَنْ هُمْ؟ مَنْ هُنَّ؟

تعریف

ایسے الفاظ جو کسی نام کی جگہ پر استعمال کئے جائیں ان کو ضمیر کہا جاتا ہے۔

Ta'reef

Aise alfaaz jo kisi naam ki jagah par istemaal kiye jaaye inko ZAMEER(Pronoun) kaha jata hai.

Definition

A Pronoun is a word used as a substitute for a Noun.

## LESSON - 3

### مَنْ هُوَ؟ مَنْ هِيَ؟ مَنْ هُمْ؟ مَنْ هُنَّ؟

| Detached Pronouns                               | Az-zameer al-Munfasil         |          | الضَّمِيرُ الْمُنْفَصِلُ |           |
|---|-------------------------------|----------|--------------------------|-----------|
| <b>Example</b>                                  | 3 <sup>rd</sup> Person Male   |          | غائب مذكر                |           |
| قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (سورة الإخلاص: 1)      | He                            | وه       | Huwa                     | هُوَ 🧔    |
| إِذْ هُمَا فِي الْعَارِ (التوبة: 40)            | They(both)                    | وه دونون | Humaa                    | هُمَا 🧔🧔  |
| وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (البقرة)         | They (All)                    | وه سب    | Hum                      | هُم 🧔🧔🧔   |
|   | 3 <sup>rd</sup> Person Female |          | غائب مؤنث                |           |
| وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا (التوبة: 40) | She                           | وه       | Hiya                     | هِيَ 🧑    |
| هُمَا سَيِّدَتَانِ                              | They(both)                    | وه دونون | Humaa                    | هُمَا 🧑🧑  |
| هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ (البقرة: 187)              | They (All)                    | وه سب    | Hunna                    | هُنَّ 🧑🧑🧑 |

## LESSON - 3


### EXERCISES

|   | 2 <sup>nd</sup> Person Male   |          | حاضر مذکر |            |
|---|-------------------------------|----------|-----------|------------|
| إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (البقرة: 32)                               | You                           | آپ       | Anta      | أنتَ 🧔     |
| أَنْتُمْ وَمَنِ اتَّبَعَكُمْ الْعَالِيُونَ (القصص: 35)                          | You(both)                     | آپ دونوں | Antumaa   | أنتما 🧔🧔   |
| فَقُولُ أَنْتُمْ مُؤْتَمِرُونَ (المائدة: 91)                                    | You (All)                     | آپ سب    | Antum     | أنتم 🧔🧔🧔   |
|   | 2 <sup>nd</sup> Person Female |          | حاضر مؤنث |            |
| قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَبَّيْكَ أَنْتِ يَا رَحْمَتِي (بخاری: 4850) | You                           | آپ       | Anti      | أنتِ 🧑     |
| أَنْتُمْ طَالِبَاتَانِ  | You(both)                     | آپ دونوں | Antumaa   | أنتما 🧑🧑   |
| أَنْتُنَّ طَالِبَاتٌ  | You (All)                     | آپ سب    | Antunna   | أنتنَّ 🧑🧑🧑 |

## LESSON - 3

### EXERCISES

|   | 1 <sup>st</sup> Person Male<br>Female |     | متکلم مذکر و مؤنث |        |
|---|---------------------------------------|-----|-------------------|--------|
| وَمَا أَنَا مِنَ الْمُسْرِكِينَ (الانعام: 79) | I                                     | میں | Ana               | أنا    |
| يَسْتَعِينُ أَنْصَارُ اللَّهِ (الصف: 14)      | We                                    | ہم  | Nahhu             | نَحْنُ |

| English  | Urdu              | Arabic      |
|--|-------------------|-------------|
| <b>3<sup>rd</sup> Person Male - غائب مذکر - </b> |                   |             |
| Who is he?   | وہ کون ہیں؟       | مَنْ هُوَ؟  |
| Who are they?  | وہ دونوں کون ہیں؟ | مَنْ هُمَا؟ |
| Who are they?  | وہ سب کون ہیں؟    | مَنْ هُمْ؟  |


## LESSON - 3

### EXERCISES

#### 3<sup>rd</sup> Person Female - غائب موث -

|               |                   |   |
|---------------|-------------------|---|
| Who is She?   | وہ کون ہیں؟       |  مَن هِيَ؟ |
| Who are they? | وہ دونوں کون ہیں؟ | مَن هُمَا؟  |
| Who are they? | وہ سب کون ہیں؟    | مَن هُنَّ؟  |

#### 2<sup>nd</sup> Person Male - حاضر مذکر -

|             |                        |   |
|-------------|------------------------|---|
| Who are you | آپ کون ہو / ہیں؟       |  مَن أَنْتَ؟ |
| Who are you | آپ دونوں کون ہو / ہیں؟ | مَن أَنْتُمَا؟  |
| Who are you | آپ سب کون ہو / ہیں؟    | مَن أَنْتُمْ؟   |



## LESSON - 3

### EXERCISES

#### 2<sup>nd</sup> Person Female - حاضر موث -

|             |                        |                |
|-------------|------------------------|----------------|
| Who are you | آپ کون ہو / ہیں؟       | مَنْ أَنْتِ    |
| Who are you | آپ دونوں کون ہو / ہیں؟ | مَنْ أَنْتُمَا |
| Who are you | آپ سب کون ہو / ہیں؟    | مَنْ أَنْتُنَّ |





# LESSON

# 4



## LESSON - 4

### أَهَذَا قَلَمٌ؟ لَا، هَذَا كِتَابٌ

| English                                  | Urdu                               | Arabic                                 |
|--|------------------------------------|--|
| Is this a pen? no, this is a book        | کیا یہ قلم ہے؟ نہیں، یہ کتاب ہے    | أَهَذَا قَلَمٌ؟ لَا، هَذَا كِتَابٌ     |
| Is this a chair? no, this is a desk      | کیا یہ کرسی ہے؟ نہیں، یہ قلمدان ہے | أَهَذَا كُرْسِيٌّ؟ لَا، هَذَا مَكْتَبٌ |
| Is this star a chair? no, this is a moon | کیا یہ ستارہ ہے؟ نہیں، یہ چاند ہے  | أَهَذَا نَجْمٌ؟ لَا، هَذَا قَمَرٌ      |

## LESSON - 4

### أَهَذَا قَلَمٌ؟ لَا هَذَا كِتَابٌ

Is this a Mobile? no, this  
is a Computer

کیا یہ موبائل ہے؟ نہیں، یہ کمپیوٹر ہے

أَهَذَا جَوَّالٌ؟ لَا هَذَا الحَاسُوبُ

Is this a horse? no, this  
is a camel

کیا یہ گھوڑا ہے؟ نہیں، یہ اونٹ ہے

أَهَذَا حِصَانٌ؟ لَا هَذَا جَمَلٌ

Is this a lion? no, this is  
a cat

کیا یہ بڑا شیر ہے؟ نہیں، یہ بلی ہے

أَهَذَا أَسَدٌ؟ لَا هَذَا قِطٌّ

## LESSON - 4

### EXERCISES

Jazar / الجَزْرُ  
Carrot / كَرْتِ



Kurunb / الكُرُنْبُ  
Cabbage / كَوْبِي



Batatis / البَطَاتِسُ  
Potato / آلو



Tamatim / الطَّمَاتِمُ  
Tomato / ثَمَّار



Sabaanikh / السَّبَانِيخُ  
Spinach / پَاك



Baazilla'a / البَاذِلَاءُ  
Peas / مَر



## LESSON - 4

### EXERCISES

Soomun/الْفُؤْمُ  
Garlic/البس



Basal/الْبَصَلُ  
Onion/پیاز



Khas/الْحَشُّ  
Lettuce/کاهوپتہ



Khiyaar/الْخِيَارُ  
Cucumber/ککڑی



Fulful/الْفُلْفُلُ  
Pepper/کالی مرچ



Fujl/الْفُجْلُ  
Radishes/مولی



LESSON - 4

EXERCISES

Baazinjaan / الباذنجان

Brinjal / بکین



Lift / اللفت  
Turnip / شلجم



Zurah / الذرة  
Corn / کئی



Baamiyah / البامیة  
Lady Finger  
بھنڈی







# LESSON

# 5





## LESSON - 5

أَنْتِ (أَهُوَ؟ أَهِيَ؟ أَهْمُ) مِنَ الْهِندِ؟ نَعَمْ نَعَمْ أَنَا

| English                 | Urdu                      | Arabic                            |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Are you from India?     | کیا آپ انڈیا سے ہیں؟      | أَأَنْتِ مِنَ الْهِندِ؟           |
| Yes yes I am from India | ہاں ہاں میں انڈیا سے ہوں۔ | نَعَمْ نَعَمْ أَنَا مِنَ الْهِندِ |

Similarly you can use أَهْوُ؟ أَهِيَ؟ أَهْمُ

|                      |                                   |                       |
|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Is he from India?    | کیا وہ انڈیا سے ہے؟               | أَهُوَ مِنَ الْهِندِ؟ |
| Is she from India?   | کیا وہ (لڑکی / عورت) انڈیا سے ہے؟ | أَهِيَ مِنَ الْهِندِ؟ |
| Are they from India? | کیا وہ سب انڈیا سے ہیں؟           | أَهُمْ مِنَ الْهِندِ؟ |

أَهُوَ / أَهِيَ / أَهْمُ + مِنَ الصِّبْيَانِ؛ مِنَ الْعَرَبِ؛ مِنَ الْعَجَمِ؛ مِنَ جُنُوبِ الْهِندِ؛ مِنَ شَمَالِ الْهِندِ؛ مِنَ أَمْرِيكَا؛ مِنَ أَوْرُشَا؟

# LESSON - 5

# EXERCISES



## LESSON - 5

### EXERCISES

| Countries | Al-Bilad/Al-Buldan | ممالک     | الْبِلَادُ/الْبُلْدَانُ |
|-----------|--------------------|-----------|-------------------------|
| India     | Al-Hind            | ہندوستان  | الْهِنْدُ               |
| China     | As-Seen            | چین       | الصِّينُ                |
| Malaysia  | Maaleeziya         | ملیشیا    | مَالِيْزِيَا            |
| Indonesia | Indonesia          | انڈونیشیا | اِنْدُوْنِيْسِيَا       |
| Italy     | Eetaaliya          | اطلی      | اِيْطَالِيَا            |

## LESSON - 5

## EXERCISES

|              |                                       |                 |   |
|--------------|---------------------------------------|-----------------|---|
| Saudi Arabia | Al-Mamlakah Al-Arabiya As-sa'oodiyyah | سعودی عرب       | المَمْلَكَة العَرَبِيَّة السَّعُودِيَّة |
| Japan        | Al-Yaabaan                            | جاپان           | اليابان                                 |
| Spain        | Isbaniya                              | ہسپانیہ / اسپین | إسبانيا                                 |
| Sudan        | As-Soodan                             | سوڈان           | السُّودَان                              |
| Egypt        | Misr                                  | مصر             | مِصر                                    |
| Turkey       | Turkiya                               | ترکی            | تُرْكِيَا                               |

## LESSON - 5

### EXERCISES

|           |             |         |               |
|-----------|-------------|---------|---------------|
| America   | Amrica      | امریکہ  | أَمْرِيكَا    |
| England   | Injiltrira  | انگلیٹڈ | إِنجِلْتِرَا  |
| France    | Faransa     | فرانس   | فَرَنْسَا     |
| Germany   | Almaaniya   | جرمنی   | أَلْمَانِيَا  |
| Iran      | Iraan       | ایران   | إِيرَان       |
| Yemen     | Al-Yaman    | یمن     | الْيَمَنُ     |
| Singapore | Singhafoora | سنگاپور | سِنْغَاפוْرَا |



# LESSON

# 6





## LESSON - 6

أَذَلِك مَسْجِدٌ؟ لَا ذَلِكَ دُكَّانٌ / مَنْ ذَلِكَ؟ ذَلِكَ طَبِيبٌ / مَا ذَلِكَ؟ ذَلِكَ وَطْطٌ

| English                            | Urdu                             | Arabic                                |
|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| Is this Masjid? No, this is a shop | کیا یہ مسجد ہے؟ نہیں، یہ دکان ہے | أَذَلِك مَسْجِدٌ؟ لَا ذَلِكَ دُكَّانٌ |
| Who is that? That is a doctor      | وہ کون ہے؟ وہ ڈاکٹر ہے           | مَنْ ذَلِكَ؟ ذَلِكَ طَبِيبٌ           |
| What is that? That is a cat        | وہ کیا ہے؟ وہ بلی ہے             | مَا ذَلِكَ؟ ذَلِكَ وَطْطٌ             |

بَيْتٌ / حِمَارٌ / كَلْبٌ / سَرِيْرٌ / اُسْتَاذٌ / تَلِيْمٌ / حَجْرٌ / لَبَنٌ / سَبُّوْرَةٌ / سَكْرٌ



LESSON - 6

EXERCISES

Inab/العنب  
Grapes/انگور



Burtoqaal/البُزْتَقَالُ  
Orange/سنتره، نارنگی



At-toot/التُّوتُ  
Apricot/خوبانی



Farawilah/الفَرَاوِيلَةُ  
Strawberries  
اسٹرابیری



Kummarsra/الكُمَّرْسِي  
Pear/ناشپتی



Burqooq/البُرْقُوقُ  
Plum/آلو بخارا



LESSON - 6

EXERCISES

Inab/العنب  
Grapes/انگور



Mauz/الموز

Banana/موز



Teen /التين  
Fig/انجیر



Tamar/التمر  
Dates/كجور



Bittikh/البطيخ  
Watermelon/تربوزه



Shammam/الشمام  
Muskmelon/خرپوزه





# LESSON

# 7



## LESSON - 7

### هَلِ الْمَسْجِدُ صَغِيرٌ؟ لَا، الْمَسْجِدُ كَبِيرٌ

| English   | Urdu  | Arabic   |
|---|---|--|
| Is the Mosque small?<br>No, the Mosque is big     | کیا مسجد چھوٹی ہے؟ نہیں، یہ مسجد بڑی ہے     | هَلِ الْمَسْجِدُ صَغِيرٌ؟ لَا، الْمَسْجِدُ كَبِيرٌ |
| Is the stone light?<br>No the stone is heavy      | کیا یہ پتھر ہلکا ہے؟ نہیں، یہ پتھر وزن ہے   | هَلِ الْحَجَرُ خَفِيفٌ؟ لَا الْحَجَرُ ثَقِيْلٌ     |
| Is the man a teacher?<br>No, this man is a doctor | کیا یہ آدمی استاذ ہے؟ نہیں یہ آدمی ڈاکٹر ہے | هَلِ الرَّجُلُ مُعَلِّمٌ؟ لَا الرَّجُلُ طَبِيْبٌ   |

## LESSON - 7

### EXERCISES

|  |   |  |
|--|---|--|
| Is the milk hot? No, this is cold        | کیا یہ دودھ گرم ہے؟ نہیں، یہ دودھ تھنڈا ہے        | هَلِ اللَّبَنِ حَارٌّ؟ لَا اللَّبَنُ بَارِدٌ         |
| Is the sun rising? Yes the sun is rising | کیا سورج طلوع ہو رہا ہے؟ ہاں! سورج طلوع ہو رہا ہے | هَلِ الشَّمْسُ طَالِعَةٌ؟ نَعَمْ الشَّمْسُ طَالِعَةٌ |
| <b>Exercise:</b>                         |   |  |
| The moon is visible                      | چاند دکھ رہا ہے                                   | الْقَمَرُ طَالِعٌ                                    |
| The shirt is short                       | شرٹ چھوٹی ہے                                      | الْقَمِيصُ قَصِيرٌ                                   |
| The water is hot                         | پانی گرم ہے                                       | الْمَاءُ حَارٌّ                                      |

## LESSON - 7

### EXERCISES

|                        |                      |                     |
|------------------------|----------------------|---------------------|
| The cloth is clean     | کپڑا صاف ہے          | الْتَّوْبُ طَاهِرٌ  |
| The imam is standing   | امام کھڑا ہے         | الْإِمَامُ وَاقِفٌ  |
| The teacher is present | استاذ حاضر ہے        | الْمُدْرِسُ حَاضِرٌ |
| The student is absent  | طالب علم غائب ہے     | الْطَلِيبُ غَائِبٌ  |
| The pen is broken      | قلم (پن) ٹوٹا ہوا ہے | الْقَلَمُ مَكْسُورٌ |
| The Mosque is big      | مسجد بڑی ہے          | الْمَسْجِدُ كَبِيرٌ |
| The house is far       | گھر دور ہے           | الْبَيْتُ بَعِيدٌ   |
| The washroom is clean  | حمام صاف ہے          | الْحَمَّامُ نَظِيفٌ |



## LESSON - 7

### EXERCISES

|                   |                       |                         |
|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| The mall is open  | شاپنگ مال کھلا ہوا ہے | اَلْمَتَجَرُّ مَفْتُوحٌ |
| The mall is close | شاپنگ مال بند ہے      | اَلْمَتَجَرُّ مُغْلَقٌ  |

now you can use

أَوْ or أَمَّ

لَكِنْ or بَلَّ



## LESSON - 7

### EXERCISES

#### For Example

The boy is toll or long  
and the man is short

لڑکا طویل قامت اور اونچا ہے اور آدمی پستہ قد  
ہے

الْوَلَدُ طَوِيلٌ وَالرَّجُلُ قَصِيرٌ

No but the boy is small  
and the man is toll and  
or short  
You can say "or short"

نہیں، بلکہ لڑکا چھوٹا اور آدمی طویل قامت یا  
پستہ قد ہے

لَا بَلَى الْوَلَدُ صَغِيرٌ وَالرَّجُلُ كَبِيرٌ  
وَقَصِيرٌ

## LESSON - 7

## EXERCISES

**You can post in that way and you can raise the question like that:**

Is the masjid small or big?

کیا مسجد بڑی ہے یا چھوٹی؟

هَلِ الْمَسْجِدُ صَغِيرًا أَمْ كَبِيرًا؟

Or you can utilize **أَمْ** or **أَوْ**  
**لَكِنْ** or **بَلْ** Means but

## LESSON - 7

### EXERCISES

And you can use أو or أم The meaning of both " " أم and " " أو you can say  
"or" in English "or" أم and " " أو so you can utilize this word also هَلِ الْمَسْجِدُ  
صَغِيرٌ أَمْ كَبِيرٌ And you can say

And you can say like that "لا-هَلْ" "not, but

## LESSON - 7

### House بَيْت EXERCISES - 1

Ghurfa/ غُرْفَةٌ  
Room/ کمرہ



Bait/ الْبَيْتُ  
House/ گھر



Mirhaas/ مِرْحَاصُ  
Toilet/ بیت الخلاء



Naafizah/ نَافِذَةٌ  
Window/ کھڑکی



Haaet/ حَائِطُ  
Wall/ دیوار




## LESSON - 7

### House بَيْت EXERCISES - 1


Matbakh / مطبخ  
Kitchen / باورچی خانہ




Ghurfatu Naum  
Bedroom / بیڈروم



Taabaq / کابقی  
Floor / فرش



Saqf / سَقْف  
Ceiling / چھت



Mat'am / مطعم  
Restaurant  
رستورانٹ



Sat'h / سَطْح  
Roof / چھت



## LESSON - 7

### EXERCISES - 2

الصِّفَاتُ وَأَصْدَادُهَا  
صفات اور ان کی ضد

#### ADJECTIVES AND THEIR OPPOSITES

| OPPOSITES | ADJECTIVES |
|-----------|------------|
| صَغِيرٌ   | كَبِيرٌ    |
| بَعِيدٌ   | قَرِيبٌ    |
| شَرٌّ     | حَسَنٌ     |
| قَبِيحٌ   | حَسَنٌ     |
| فَقِيرٌ   | غَنِيٌّ    |
| أَخْبَرٌ  | أَوْلٌ     |

## LESSON - 7

### EXERCISES - 2

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| يَسَارٌ         | يَمِينٌ     |
| عَذَابٌ/عِقَابٌ | ثَوَابٌ     |
| حَيَاةٌ         | مَوْتٌ      |
| تَأْوِصٌ        | كَامِلٌ     |
| مُتَوَاضِعٌ     | مُتَكَبِّرٌ |
| سَبِيحٌ         | صَالِحٌ     |
| سَاجِدٌ         | بَارِدٌ     |
| جَافٌ           | مُبَلِّلٌ   |



## LESSON - 7

### EXERCISES - 2

|                      |         |
|----------------------|---------|
| تَحْتِ               | فَوْقِ  |
| دَاخِلُ              | خَارِجُ |
| صَعْبُ               | سَهْلُ  |
| مَبْلُؤٌ / مَشْغُولٌ | فَارِغٌ |
| وَرَاءَ              | أَمَامَ |
| سَرِيعٌ              | بَطِيءٌ |
| قَصِيدٌ              | طَوِيلٌ |
| حَيٌّ                | مَيِّتٌ |

LESSON - 7

EXERCISES - 2

قَدِيمٌ

جَدِيدٌ

نَحِيفٌ

سَمِينٌ

مُغْلَقٌ

مَفْتُوحٌ


كَثِيرٌ

قَلِيلٌ



# LESSON

# 8



## LESSON - 8

### أَيْنَ الدِّيْكِ؟ الدِّيْكُ عَلَى الْجِدَارِ

| English   | Urdu                                    | Arabic   |
|---|---|--|
| Where is the rooster?<br>Rooster is on the wall             | مرغا کہاں ہے؟ مرغا دیوار پر ہے          | أَيْنَ الدِّيْكِ؟ الدِّيْكُ عَلَى الْجِدَارِ         |
| Where is the doctor?<br>The doctor is in the hospital       | ڈاکٹر کہاں ہے؟ ڈاکٹر ہاسپٹل میں ہے      | أَيْنَ الطَّبِيبِ؟ الطَّبِيبُ فِي الْمُسْتَشْفَى     |
| Where is the businessman?<br>The businessman is in the Mall | بسنس مان کہاں ہے؟ تاجر شاپنگ مال میں ہے | أَيْنَ التَّاجِرِ؟ التَّاجِرُ فِي الْمَتَجَرِّ       |
| Where is the moon?<br>The moon is in the sky                | چاند کہاں ہے؟ چاند آسمان میں ہے         | أَيْنَ الْقَمَرِ؟ الْقَمَرُ فِي السَّمَاءِ           |
| Where is the moon?<br>The moon is in the sky                | مچھلی کہاں ہے؟ مچھلی پانی میں ہے        | أَيْنَ السَّمَكِ؟ السَّمَكُ فِي الْمَاءِ / الْبَحْرِ |

## LESSON - 8

### أَيِّنَ الدِّيَكِ؛ الدِّيَكِ عَلَى الجِدَارِ

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | أَيِّنَ الدُّكَّانِ؛ الدُّكَّانُ قَرِيبٌ          |
|  |  | أَيِّنَ الدَّفْتَرِ؛ الدَّفْتَرُ فِي الحَقِيبَةِ  |
|  |  | أَيِّنَ الثُّفَّاحِ؛ الثُّفَّاحُ فِي الثَّلَاجَةِ |
|  |  | أَيِّنَ الكَعْبَةِ؛ الكَعْبَةُ فِي مَكَّةَ        |
|  |  | أَيِّنَ السَّاعَةِ؛ السَّاعَةُ عَلَى اليَدِ       |
|  |  | أَيِّنَ رِيْدَبِ؛ هِيَ فِي العُرْفَةِ             |
|  |  | أَيِّنَ الوَلَدِ؛ هُوَ فِي المَدْرَسَةِ           |

LESSON - 8

EXERCISES

Mil'aqah / مِلْعَقَةٌ  
Spoon / چمچ



Shaukah / شَوْكَةٌ  
Fork / کاشا



Sikkeen / سِكِّينٌ  
Knife / چاقو



Mighrafah / مِغْرَفَةٌ  
Ladle / دُونِي



Ibraqu Qahwa / اِبْرَاقِي قَهْوَةٌ  
Coffee Pot / کافئ جگ



Ghalayah Shaa / غَلَايَةُ شَايِ  
Kettle / کیتلی





LESSON - 8

EXERCISES

Tabaq / طَبَق  
Plate / رَكَابِي



طَبَقِ فِئْجَان  
Tabaq Finjaan  
Soucer / طَشْتَرِي



Saltaniyah / سَلْطَانِيَّة  
Bwol / كَوْرَه



Qidr / قِدْر  
Pot

ہانڈی، بگونا، دیکھی



Gassaalah / غَسَّالَةٌ  
Washing  
Machine  
واشنگ مشین



Sallajah / سَلَّاجَةٌ  
Fridge / فَرِج



## LESSON - 8

## EXERCISES

Botajaaz / بوتاجاز  
Cooker / كوكر



Rafful Matbakh  
Kitchen Stand



Maknasat Kahrabayiyah  
Vacuum Cleaner





# LESSON

# 9



## LESSON - 9

### مَنْ فِي الْمَدْرَسَةِ؟ الطَّالِبُ فِي الْمَدْرَسَةِ

| English   | Urdu   | Arabic  |
|---|--|---|
| Who is in school? The student in the school                 | مدرسہ میں کون ہے؟ مدرسے میں طالب علم ہے        | مَنْ فِي الْمَدْرَسَةِ؟ الطَّالِبُ فِي الْمَدْرَسَةِ                |
| Who is in kitchen? The mother in the kitchen                | کچن میں کون ہے؟ کچن میں ماں ہے                 | مَنْ فِي الْمَطْبَخِ؟ الْأُمُّ فِي الْمَطْبَخِ                      |
| Who is in Hospital? The patient in the hospital             | ہاسپٹل میں کون ہے؟ ہاسپٹل میں مریض ہے          | مَنْ فِي الْمُسْتَشْفَى؟ الْمَرِيضُ فِي الْمُسْتَشْفَى              |
| Who is in shop? The business man in the school              | دکان میں کون ہے؟ دکان میں تاجر ہے              | مَنْ فِي الدُّكَّانِ؟ التَّاجِرُ فِي الدُّكَّانِ                    |
| Who is in school? The student and the teacher are in school | مدرسے میں کون ہے؟ مدرسے میں استاذ اور شاگرد ہے | مَنْ فِي الْمَدْرَسَةِ؟ الطَّالِبُ وَالْمُعَلِّمُ فِي الْمَدْرَسَةِ |

## LESSON - 9

# مَنْ فِي الْمَدْرَسَةِ؟ الطَّالِبُ فِي الْمَدْرَسَةِ

|  |  |  |
|--|--|--|
| Who is in washroom?<br>The boy in the washroom       | حمام میں کون ہے؟ حمام میں لڑکا ہے          | مَنْ فِي الْحَمَّامِ؟ الْوَلَدُ فِي الْحَمَّامِ  |
| Who is in room? The girl in the room                 | روم میں کون ہے؟ روم میں لڑکی ہے            | مَنْ فِي الْغُرْفَةِ؟ الْبِنْتُ فِي الْغُرْفَةِ  |
| Who is in Masjid? The imam in the Masjid             | مسجد میں کون ہے؟ مسجد میں امام ہے          | مَنْ فِي الْمَسْجِدِ؟ الْإِمَامُ فِي الْمَسْجِدِ |
| Who is in classroom?<br>The student in the classroom | کلاس روم میں کون ہے؟ کلاس روم میں شاگرد ہے | مَنْ فِي الْفَصْلِ؟ التِّلْمِيذُ فِي الْفَصْلِ   |

## LESSON - 9

### مَنْ فِي الْمَدْرَسَةِ؟ الطَّالِبُ فِي الْمَدْرَسَةِ

#### EXERCISE

|                           |                        |                         |
|---------------------------|------------------------|-------------------------|
| Who is in the office?     | آفس میں کون ہے؟        | مَنْ فِي الْمَكْتَبِ؟   |
| Who is in the workshop?   | کارخانہ میں کون ہے؟    | مَنْ فِي الْمَعْمَلِ؟   |
| Who is in the factory?    | فیکٹری میں کون ہے؟     | وَمَنْ فِي الْمَصْنَعِ؟ |
| Who is in the shop?       | دکان میں کون ہے؟       | مَنْ فِي الدُّكَّانِ؟   |
| Who is in the mall?       | مول میں کون ہے؟        | مَنْ فِي الْمَتَّجِرِ؟  |
| Who is in the playground? | پلے گراؤنڈ میں کون ہے؟ | مَنْ فِي الْمَيْدَانِ؟  |
| Who is in the house?      | گھر میں کون ہے؟        | مَنْ فِي الْمَنْزِلِ؟   |



## LESSON - 9

# مَنْ فِي الْمَدْرَسَةِ؟ الطَّالِبُ فِي الْمَدْرَسَةِ

|  |                               |  |
|--|-------------------------------|--|
| Who is in the restaurant?                              | ریسٹورانٹ میں کون ہے؟         | مَنْ فِي الْمَطْعَمِ؟                      |
| Who is in the inside?<br>And who is in the<br>outside? | اندر کون ہے؟ اور باہر کون ہے؟ | مَنْ فِي الدَّاخِلِ وَمَنْ فِي الْخَارِجِ؟ |

## EXERCISE

### الْمِهْنُ وَالْوِطَائِفُ - Profession and Job

| No | English  | Arabic       |
|----|----------|--------------|
| 1  | Farmer   | فَلَّاحٌ     |
| 2  | Mechanic | مِيكَانِيكِي |

## LESSON - 9

### EXERCISES

|    |           |                       |
|----|-----------|-----------------------|
| 3  | Teacher   | أُسْتَاذٌ (مُعَلِّمٌ) |
| 4  | Builder   | بَنَّاءٌ (بَانِيٌ)    |
| 5  | Butcher   | جَزَّارٌ              |
| 6  | Carpenter | نَجَّارٌ              |
| 7  | Cashier   | أَمِينُ الصُّدُوقِ    |
| 8  | Chef      | طَاهٍ                 |
| 9  | Cleaner   | مُنْتَظِفٌ            |
| 10 | Dentist   | دَكْتُورُ أُسْدَانٍ   |

## LESSON - 9

### EXERCISES

|    |                    |                             |
|----|--------------------|-----------------------------|
| 11 | Doctor             | طَبِيبٌ                     |
| 12 | Electrician        | عَامِلُ الْكَهْرِبَاءِ      |
| 13 | Engineer           | مُهَنْدِسٌ                  |
| 14 | Fireman            | رَجُلُ الْإِطْفَاءِ         |
| 15 | Flight Attendant   | مُضَيِّفَةُ طَبْرَانِ       |
| 16 | Hairdresser/Barber | حَلَّاقٌ / مُصَفِّفُ شَعْرٍ |
| 17 | Cook               | طَبَّاخٌ                    |
| 18 | Electrician        | كَهْرِبَائِيٌّ              |

## LESSON - 9

### EXERCISES

|    |                |                     |
|----|----------------|---------------------|
| 19 | Author         | مُؤَلِّفٌ           |
| 20 | Factory Worker | عَامِلُ الْبَصْنَعِ |
| 21 | Clerk          | كَاتِبٌ             |
| 22 | Singer         | مُعَيِّنٌ           |
| 23 | Home Maker     | رَبَّةُ الْبَيْتِ   |
| 24 | Business Man   | رَجُلُ أَعْمَالٍ    |
| 25 | Journalist     | صَحَافِيٌّ          |
| 26 | Judge          | قَاضِيٌّ            |

## LESSON - 9

## EXERCISES

|    |              |                          |
|----|--------------|--------------------------|
| 27 | Lawyer       | مُحَاوِي                 |
| 28 | Musician     | عَازِفٌ                  |
| 29 | Nurse        | مُمَرِّضَةٌ              |
| 30 | Painter      | دَكَّانٌ                 |
| 31 | Photographer | مُصَوِّرٌ فُوتُوغَرَاڤِي |
| 32 | Pilot        | طَيَّارٌ                 |
| 33 | Plumber      | سَبَاكَةٌ                |
| 34 | Policeman    | شُرْطِي                  |

## LESSON - 9

### EXERCISES

|    |              |                          |
|----|--------------|--------------------------|
| 35 | Postman      | سَاعِي الْبَرِيدِ        |
| 36 | Receptionist | مُوظِفِ الْإِسْتِقْبَالِ |
| 37 | Scientist    | عَالِمِ الطِّبِّ         |
| 38 | Secretary    | سِكْرَتِيرُو (مُسَاعِدٌ) |
| 39 | Tailor       | حَيَّاطٌ                 |
| 40 | Technician   | فَتَى                    |
| 41 | Waiter       | نَادِلٌ                  |
| 42 | Welder       | كَيَّامٌ                 |





# LESSON

# 10



## LESSON - 10

### مَاذَا عَلَى الْكُرْسِيِّ؛ الثَّوْبُ عَلَى الْكُرْسِيِّ

| English  | Urdu   | Arabic  |
|--|--|---|
| What is on the chair?<br>The cloth is on the chair       | کرسی پر کیا ہے؟ کرسی پر کپڑا ہے              | مَاذَا عَلَى الْكُرْسِيِّ؛ الثَّوْبُ عَلَى الْكُرْسِيِّ |
| What is on the desk?<br>The cup is on the desk           | ڈسک پر کیا ہے؟ ڈسک پر کپ ہے                  | مَاذَا عَلَى الْمَكْتَبِ؛ الْكُؤُوبُ عَلَى الْمَكْتَبِ  |
| What is in cup? The tea is in the chair                  | کپ میں کیا ہے؟ کپ میں چائے ہے                | وَمَاذَا فِي الْكُؤُوبِ؛ الشَّاي فِي الْكُؤُوبِ         |
| What is in the tea? The water and milk are in the tea    | چائے میں کیا ہے؟ چائے میں پانی اور دودھ ہے   | وَمَاذَا فِي الشَّاي؛ الْمَاءُ وَالْحَلِيبُ فِي الشَّاي |
| What is in the shop?<br>There are many thing in the shop | دکان میں کیا ہے؟ دکان میں بہت ساری چیزیں ہیں | مَاذَا فِي الدُّكَّانِ؛ الْأَشْيَاءُ فِي الدُّكَّانِ    |
| What is in the pocket?<br>The pen is in the pocket       | جیب میں کیا ہے؟ جیب میں قلم ہے               | مَاذَا فِي الْجَيْبِ؛ الْقَلَمُ فِي الْجَيْبِ           |

## LESSON - 10

### مَاذَا عَلَى الْكُرْسِيِّ؛ الثَّوْبُ عَلَى الْكُرْسِيِّ


#### Practice & exercise

|            |         |            |
|------------|---------|------------|
| Restaurant | رستورنٹ | مَطْعَمٌ   |
| Food       | غذا     | الْغِذَاءُ |
| Bed        | پٹنگ    | السَّرِيرُ |
| Milk       | دودھ    | الْحَلِيبُ |
| Stream     | نہر     | النَّهْرُ  |

## LESSON - 10

### مَاذَا عَلَى الْكُرْسِيِّ؛ الثَّوْبُ عَلَى الْكُرْسِيِّ

|           |         |               |
|-----------|---------|---------------|
| Street    | گلی     | السَّارِعُ    |
| Car       | کار     | السِّيَّارَةُ |
| Book      | کتاب    | الْكِتَابُ    |
| Note Book | نوٹ بوک | الْكُرْسَى    |
| House     | گھر     | الْبَيْتُ     |



# LESSON

# 11



## LESSON - 11

# أَيْنَ ذَهَبَ حَامِدٌ؟ ذَهَبَ حَامِدٌ إِلَى الدُّكَّانِ

| English   | Urdu   | Arabic  |
|---|--|---|
| Where did Hamid go?<br>Hamid went to the shop             | حامد کہاں گیا؟ حامد دکان پر گیا                | أَيْنَ ذَهَبَ حَامِدٌ؟ ذَهَبَ حَامِدٌ إِلَى الدُّكَّانِ     |
| From where Hamid came out? Hamid came out from the Mosque | حامد کہاں سے باہر نکلا؟ حامد مسجد سے باہر نکلا | مِنْ أَيْنَ خَرَجَ حَامِدٌ؟ خَرَجَ حَامِدٌ مِنَ الْمَسْجِدِ |
| What did Hamid do?<br>Hamid helped a poor                 | حامد نے کیا کیا؟ حامد نے غریب کی مدد کی        | مَاذَا فَعَلَ حَامِدٌ؟ نَصَرَ حَامِدٌ فَقِيرًا              |



## LESSON - 11

### أَيْنَ ذَهَبَ حَامِدٌ؟ ذَهَبَ حَامِدٌ إِلَى الدُّكَّانِ

|  |   |  |
|--|---|--|
| Where did Hamid come? Hamid came the shop          | حامد کہاں آیا؟ حامد دکان پر آیا             | أَيْنَ أَتَى حَامِدٌ؟ حَامِدٌ أَتَى إِلَى الدُّكَّانِ  |
| Where did Hamid write? Hamid wrote in the notebook | حامد نے کہاں لکھا؟ حامد نے نوٹ بوک میں لکھا | أَيْنَ كَتَبَ حَامِدٌ؟ حَامِدٌ كَتَبَ فِي الكُرَّاسَةِ |
| Where did Hamid keep? Hamid kept in the pocket     | حامد نے کہاں رکھا؟ حامد نے جیب میں رکھا     | أَيْنَ وَضَعَ حَامِدٌ؟ حَامِدٌ وَضَعَ فِي الجَيْبِ     |

## LESSON - 11

# أَيْنَ ذَهَبَ حَامِدٌ؟ ذَهَبَ حَامِدٌ إِلَى الدُّكَّانِ

Where did Hamid lift?  
Hamid lifted in the  
classroom

حامد نے کہاں اٹھایا؟ حامد نے کلاس روم  
میں اٹھایا

أَيْنَ رَفَعَ حَامِدٌ؟ حَامِدٌ رَفَعَ فِي الفَصْلِ

Where did Hamid  
enter? Hamid entered  
in the shop

حامد کہاں داخل ہوا؟ حامد دکان میں داخل  
ہوا

أَيْنَ دَخَلَ حَامِدٌ؟ دَخَلَ حَامِدٌ فِي الدُّكَّانِ

## LESSON - 11

### انفعال (قرآن مجید) EXERCISES

| حوالہ | تعداد | English                          | اردو                | Roman  | عربی    |    |
|-------|-------|----------------------------------|---------------------|--------|---------|----|
| 2:8   | 1618  | Said                             | کہا                 | Qaala  | قَالَ   | 1  |
| 2:10  | 1358  | Was                              | تھا                 | Kaana  | كَانَ   | 2  |
| 2:196 | 537   | Believed<br>(with<br>acceptance) | ایمان لایا          | Aamana | ءَامَنَ | 3  |
| 2:13  | 382   | Know                             | جانا                | Alima  | عَلِمَ  | 4  |
| 2:19  | 340   | Made                             | بنایا               | Ja'ala | جَعَلَ  | 5  |
| 2:6   | 289   | Desbelieved<br>/Rejected         | کفر کیا / انکار کیا | Kafara | كَفَرَ  | 6  |
| 2:71  | 278   | Came                             | آیا                 | Jaa'a  | جَاءَ   | 7  |
| 2:25  | 276   | Worked/ Acted                    | عمل کیا             | Amila  | عَمِلَ  | 8  |
| 9:19  | 271   | Gave                             | دیا                 | Aataa  | أَعْطَى | 9  |
| 2:55  | 271   | Saw                              | دیکھا               | Ra'aa  | رَأَى   | 10 |
| 2:23  | 264   | Come                             | آیا                 | Ataa   | أَتَى   | 11 |
| 2:20  | 236   | Washed                           | چاہا                | Shaa'a | شَاءَ   | 12 |

## LESSON - 11

### انفال (قرآن مجید) EXERCISES

|        |     |                   |                  |           |          |    |
|--------|-----|-------------------|------------------|-----------|----------|----|
| 2:21   | 184 | Created           | پیدا کیا         | Khalaqa   | خَلَقَ   | 13 |
| 17:105 | 183 | Revealed          | انبارا           | Anzala    | أَنْزَلَ | 14 |
| 2:10   | 176 | Denied            | جھٹلایا          | Kazzaba   | كَذَّبَ  | 15 |
| 2:23   | 170 | Invited/ Prayed   | یلایا / دعا کیا  | Da'aa     | دَعَا    | 16 |
| 2:201  | 166 | Become Righteous  | تقویٰ اختیار کیا | Ittaqaa   | اتَّقَى  | 17 |
| 2:143  | 144 | Guided            | ہدایت دیا        | Hada      | هَدَى    | 18 |
| 2:26   | 139 | Intended/ Desired | ارادہ کیا        | Araada    | أَرَادَ  | 19 |
| 2:38   | 136 | Followed          | اتباع کیا        | Ittaba'a  | اتَّبَعَ | 20 |
| 9:33   | 130 | Sent              | بھیجا            | Arsala    | أَرْسَلَ | 21 |
| 3:81   | 127 | Sized/ Holed      | پکڑا             | Akhaza    | أَخَذَ   | 22 |
| 2:51   | 124 | Made              | بنایا            | Ittakhaza | اتَّخَذَ | 23 |
| 1:5    | 122 | Worshiped         | عبادت کیا        | Abada     | عَبَدَ   | 24 |
| 2:54   | 110 | Oppressed         | ظلم کیا          | Zalama    | ظَلَّمَ  | 25 |

Note: For more verbs ,please refer my Book, Quranic Arabic Grammar 2nd volume, in sha Allaah

# LESSON - 11

## EXERCISES

### گردان فعل ماضی - التَّصْرِيفُ لِفِعْلِ الْمَاضِي - Table of Past Tense

| 3 <sup>rd</sup> Person Male        |                 | غائب مذکر       |             |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| He did                             | اس نے کیا       | Fa-a-la         | فَعَلَ      |
| They(both) did                     | ان دونوں نے کیا | Fa-a-laa        | فَعَلَا     |
| They(all) did                      | ان سب نے کیا    | Fa-a-loo        | فَعَلُوا    |
| 3 <sup>rd</sup> Person Female      |                 | غائب مؤنث       |             |
| She did                            | اس نے کیا       | Fa-a-l-at       | فَعَلَتْ    |
| They(both) did                     | ان دونوں نے کیا | Fa-a-la-taa     | فَعَلَتَا   |
| They(all) did                      | ان سب نے کیا    | Fa-a-l-na       | فَعَلْنَ    |
| 2 <sup>nd</sup> Person Male        |                 | حاضر مذکر       |             |
| You did                            | تم نے کیا       | Fa-a-l-ta       | فَعَلْتَ    |
| You (both) did                     | تم دونوں نے کیا | Fa-a-l-tumaa    | فَعَلْتُمَا |
| You (all) did                      | تم سب نے کیا    | Fa-a-l-tum      | فَعَلْتُمْ  |
| 2 <sup>nd</sup> Person Female      |                 | غائب مؤنث       |             |
| You did                            | تم نے کیا       | Fa-a-l-ti       | فَعَلْتِ    |
| You (both) did                     | تم دونوں نے کیا | Fa-a-l-tumaa    | فَعَلْتُمَا |
| You (all) did                      | تم سب نے کیا    | Fa-a-l-tunna    | فَعَلْتُنَّ |
| 1 <sup>st</sup> Person Male/Female |                 | متکلم مذکر مؤنث |             |
| I did                              | میں نے کیا      | Fa-a-l-tu       | فَعَلْتُ    |
| We did                             | ہم سب نے کیا    | Fa-a-l-naa      | فَعَلْنَا   |



# LESSON

# 12



## LESSON - 12 PART - 1

### أَيُّنَ ذَهَبَ حَامِدٌ؟ ذَهَبَ حَامِدٌ إِلَى الدُّكَّانِ

| English   | Urdu                                    | Arabic   |
|---|---|--|
| Whose pen is this? This pen belongs to the doctor                   | حامد کہاں گیا؟ حامد دکان پر گیا         | لِمَنْ هَذَا الْقَلَمُ؟ هَذَا الْقَلَمُ لِلطَّبِيبِ      |
| Whose is that   |   | لِمَنْ ذَلِكَ؟   |
| Whose watch is that? that is watch belong to the boy                | یہ گھڑی کس کی ہے؟ یہ گھڑی اس لڑکے کی ہے | لِمَنْ هَذِهِ السَّاعَةُ؟ هَذِهِ السَّاعَةُ لِلوَلَدِ    |
| Whose is that   |   | لِمَنْ تِلْكَ؟   |
| To whom does this dirham belongs to? This dirham belongs to Ibrahim | یہ درہم کس کا ہے؟ یہ درہم ابراہیم کا ہے | لِمَنْ تِلْكَ الدِّرَاهِمُ؟ تِلْكَ الدِّرَاهِمُ لابراهيم |
| To whom does that watch belongs to? That watch belongs to the boy   | یہ گھڑی کس کی ہے؟ وہ گھڑی لڑکے کی ہے    | لِمَنْ تِلْكَ السَّاعَةُ؟ تِلْكَ السَّاعَةُ لِلوَلَدِ    |



## LESSON - 12 PART - 1

### أَيَّنْ ذَهَبَ حَامِدٌ؟ ذَهَبَ حَامِدٌ إِلَى الدُّكَّانِ

|   |                                    |  |
|---|------------------------------------|--|
| To whom does this car belongs to? The car belongs to the engineer | یہ کار کس کا ہے؟ کار انجینئر کی ہے | لِمَنْ هَذِهِ السَّيَّارَةُ؟ هَذِهِ السَّيَّارَةُ لِلْمُهَنْدِسِ |
| To whom does this cycle belongs to?                               | یہ سائیکل کس کی ہے؟                | لِمَنْ هَذِهِ الدَّرَاجَةُ؟                                      |

### Exercise

|       |      |               |
|-------|------|---------------|
| Spoon | چمچ  | الْمِلْعَقَةُ |
| Pan   | توا  | الْقَنْدُ     |
| Cow   | گائے | بَقْرَةٌ      |

## LESSON - 12 PART - 2

# كِتَابٌ مِّنْ هَذَا؟ هَذَا كِتَابٌ

| English              | Urdu              | Arabic                  |
|----------------------|-------------------|-------------------------|
| Whose son is that    | وہ کس کا بیٹا ہے؟ | إِبْنٌ مِّنْ هَذَا؟     |
| Who daughter is that | وہ کس کی بیٹی ہے؟ | بِنْتُ مِّنْ هَذَا؟     |
| Whose garden is that | وہ باغ کس کا ہے؟  | حَدِيْقَةٌ مِّنْ هَذَا؟ |
| Whose house is that  | وہ گھر کس کا ہے   | بَيْتٌ مِّنْ هَذَا؟     |
| Whose pen is that    | وہ پن کس کا ہے    | قَلَمٌ مِّنْ هَذَا؟     |


### Exercise :

kindly use old vocabulary, it will help the learners for revision for old memorised words in-sha-Aallh



# LESSON

# 13



## LESSON - 13

### أَنْتِ أَيْضًا مَهْنَدِسٌ؟ لَا أَنَا طَبِيبٌ

| English   | Urdu   | Arabic   |
|---|--|--|
| Are you also an engineer?<br>No, I'm a doctor                     | کیا آپ بھی انجینئر ہیں؟ نہیں، میں ایک ڈاکٹر ہوں                  | أَنْتِ أَيْضًا مَهْنَدِسٌ؟ لَا، أَنَا طَبِيبٌ      |
| Are you also a teacher?<br>yes, I'm a teacher                     | کیا آپ بھی استاد ہیں؟ ہاں، میں ایک استاد ہوں                     | أَنْتِ أَيْضًا مَعْلِمَةٌ؟ نَعَمْ أَنَا مَعْلِمَةٌ |
| Are you also a player? No,<br>I'm a writer                        | کیا آپ بھی ایک کھلاڑی ہیں؟ نہیں، میں ایک مصنف ہوں                | أَنْتِ أَيْضًا لَاعِبٌ؟ لَا أَنَا كَاتِبٌ          |
| Are you also a research<br>scholar? No, I'm a<br>director/manager | کیا آپ بھی ریسرچ اسکالر ہیں؟ نہیں، میں ایک ڈائریکٹر / مینیجر ہوں | أَنْتِ أَيْضًا بَاحِثٌ؟ لَا أَنَا مُدِيرٌ          |
| Are you also a<br>watchman? No, I'm a<br>seller                   | کیا آپ بھی چوکیدار ہیں؟ نہیں، میں بیچنے والا ہوں                 | أَنْتِ أَيْضًا حَارِسٌ؟ لَا أَنَا بَائِعٌ          |
| Are you also a byer? No,<br>I'm a seller                          | کیا آپ بھی بائیر ہیں؟ نہیں، میں بیچنے والا ہوں                   | أَنْتِ أَيْضًا مُشْتَرِيٌّ؟ لَا أَنَا بَائِعٌ      |

**Exercise :** kindly use old vocabulary, it will help the learners for revision for old memories words in-sha-Aallh

## LESSON - 13

### EXERCISES

#### الْمِهَنَ وَالْوَحَائِفَ - Profession and Job

| No | English   | Arabic                |
|----|-----------|-----------------------|
| 1  | Farmer    | فَلَّاحٌ              |
| 2  | Mechanic  | مِيكَانِيكِي          |
| 3  | Teacher   | أُسْتَاذٌ (مُعَلِّمٌ) |
| 4  | Builder   | بِنَّاءٍ (بَانِي)     |
| 5  | Butcher   | جَزَّارٌ              |
| 6  | Carpenter | نَجَّارٌ              |
| 7  | Cashier   | أُمِينُ الصُّنْدُوقِ  |

## LESSON - 13

### EXERCISES

|    |                  |                        |
|----|------------------|------------------------|
| 8  | Chef             | طَاهٍ                  |
| 9  | Cleaner          | مُنْتَظِفٌ             |
| 10 | Dentist          | دَكْتُورُ أَسْنَانٍ    |
| 11 | Doctor           | طَبِيبٌ                |
| 12 | Electrician      | عَامِلُ الْكَهْرُبَاءِ |
| 13 | Engineer         | مُهَنْدِسٌ             |
| 14 | Fireman          | رَجُلُ الإِطْفَاءِ     |
| 15 | Flight Attendant | مُضَيِّفَةُ طَيَّرَانٍ |

## LESSON - 13

### EXERCISES

|    |                    |                             |
|----|--------------------|-----------------------------|
| 16 | Hairdresser/Barber | حَلَّاقٌ / مُصَفِّفُ شَعْرٍ |
| 17 | Cook               | طَبَّاحٌ                    |
| 18 | Electrician        | كَهْرِبَائِيٌّ              |
| 19 | Author             | مُؤَلِّفٌ                   |
| 20 | Factory Worker     | عَامِلُ التَّصْنِيعِ        |
| 21 | Clerk              | كَاتِبٌ                     |
| 22 | Singer             | مُغَنِّيٌّ                  |
| 23 | Home Make          | رَبَّةُ الْبَيْتِ           |



## LESSON - 13

### EXERCISES

|    |              |                           |
|----|--------------|---------------------------|
| 24 | Business Man | رَجُلُ أَعْمَالٍ          |
| 25 | Journalist   | صَحَافِيّ                 |
| 26 | Judge        | قَاضِي                    |
| 27 | Lawyer       | مُعَاوِن                  |
| 28 | Musician     | عَارِفٌ                   |
| 29 | Nurse        | مُضَيِّضَةٌ               |
| 30 | Painter      | كَهَّانٌ                  |
| 31 | Photographer | مُصَوِّرٌ فَوْتُوغِرَافِي |

## LESSON - 13

### EXERCISES

|    |              |                           |
|----|--------------|---------------------------|
| 32 | Pilot        | طَيَّارٌ                  |
| 33 | Plumber      | سَبَّاحَةٌ                |
| 34 | Policeman    | شُرْطِيٌّ                 |
| 35 | Postman      | سَّاعِي الْبُرُودِ        |
| 36 | Receptionist | مُوظَّفُ الْإِسْتِقْبَالِ |
| 37 | Scientist    | عَالِمُ الطِّبِّ          |
| 38 | Secretary    | سَكْرَتِيْرٌ (مُسَاعِدٌ)  |

## LESSON - 13


## EXERCISES

|    |            |          |
|----|------------|----------|
| 39 | Tailor     | حَيَّاطٌ |
| 40 | Technician | فَتَى    |
| 41 | Waiter     | كَادِلٌ  |
| 42 | Welder     | كَاوِمٌ  |



# LESSON

# 14



## LESSON - 14

# مَا هَذَا؟ هَذَا جِسْمٌ

| English                      | Urdu                      | Arabic                  |
|------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| What is this? This is a body | یہ کیا ہے؟ یہ ایک جسم ہے  | مَا هَذَا؟ هَذَا جِسْمٌ |
| What is this? This is a head | یہ کیا ہے؟ یہ ایک سر ہے   | مَا هَذَا؟ هَذَا رَأْسٌ |
| What is this? This is a hair | یہ کیا ہے؟ یہ بال ہیں     | مَا هَذَا؟ هَذَا شَعْرٌ |
| What is this? This is a face | یہ کیا ہے؟ یہ ایک جسم ہے  | مَا هَذَا؟ هَذَا وَجْهٌ |
| What is this? This is a eye  | یہ کیا ہے؟ یہ ایک چہرہ ہے | مَا هَذَا؟ هَذَا عَيْنٌ |
| What is this? This is a nose | یہ کیا ہے؟ یہ ایک ناک ہے  | مَا هَذَا؟ هَذَا أَنْفٌ |

## LESSON - 14

### EXERCISES

# الأعضاء البشريّة انسان کے اعضاء Human Organs

Sha'ar / شَعْرَة  
Hair / بال



Ra's / رَأْس  
Head  
سر



Ain / عَيْن  
Eye  
آنکھ



Waj'a / وَجْه  
Face / چہرہ



# LESSON - 14

## EXERCISES

Fa, فم /  
Mouth / منة



أنف  
Anf  
Nose / ناك



أذن /  
Uzn  
Ear / كان



سین /  
Sin  
Tooth  
دانت



لسان /  
Lisaan  
Tongue  
زبان



شفة /  
Shafatun  
Lips / هونث





# LESSON - 14

## EXERCISES

Khad/حَدَّ  
Cheek/گال



ذِقْنُ

Diq

Chin/تھوڑی



Sharib/شَارِبْ  
Mustache/مونچھ



Lihyah/لِحْيَةُ

Beard

دارڑھی



Hajib/حَاجِبْ  
Eyebrow

بھویں



Jab'ha/جَبْهَةٌ  
Forehead/پیشانی



# LESSON - 14

## EXERCISES

Zira/ذِرَاعُ  
Arm/بازو



كف

Kaff  
Palm/هتیلی



Yad/يَدُ  
Hand/پاتھ



Mirq/مِرْفَعُ  
Elbow  
کهنی



Surrah /سُرَّةُ  
Navel  
ناف



Sadr /صَدْرُ  
Chest /سینه



# LESSON - 14

## EXERCISES

Qalb / قَلْبُ  
Heart / دل



Mi'dah / مَعْدَةُ  
Stomach / معدة



Dam / دَمٌ  
Blood / خون




Mukh / مَخ  
Brain / دماغ



Fakhiz / فَخِيزٌ  
Thigh / ران



Rukhbah / رُكْبَةٌ  
Knee / گھٹنہ



# LESSON - 14

## EXERCISES

Aqib/عَقِبْ  
Heel/اِيڑھی



كَعْبْ  
Ka'b  
Ankle/کَنجھ



Qadam/قَدَمُ  
Foot/پاؤں



Rijl/رِجْلُ  
Leg  
بیر



Isba /إِصْبَعُ  
Finger  
انگلی



Saaq /سَاقُ  
Shin /پنڈلی





# LESSON

# 15



## LESSON - 15

### EXERCISES

| What are this things in house | گھر میں کیا چیزیں ہیں؟ | مَا هَذِهِ الْأَشْيَاءُ فِي الْبَيْتِ؟ |
|-------------------------------|------------------------|--|
| English                       | Urdu                   | Arabic                                 |
| Iron                          | استری                  | الْحَدَادَةُ                           |
| Fridge                        | فریج                   | الْفَرِجَة                             |
| Water color                   | واٹر کالر              | الْبَرَادَةُ                           |
| A/C-Air Condition             | اے سی                  | الْمُكَيَّف                            |
| Fan                           | فان                    | الْمِهْرَوَحَةُ                        |
| Light                         | لائٹ                   | إِلْتِبَاح                             |
| Washing Machine               | واشنگ مشین             | الْعَسَّالَةُ                          |
| Coffee                        | کافی                   | الْقَهْوَةُ                            |
| Window                        | کھڑکی                  | الْكَافِذَةُ                           |
| Small Cup                     | پیال                   | الْفِنْجَانُ                           |
| Big Cup                       | پیالہ                  | الْكُوبُ                               |
| Kitchen                       | باورچی خانہ            | الْمَطْبَخُ                            |
| Bedroom                       | بیڈروم                 | غُرْفَةُ النَّوْمِ                     |
| Washroom                      | حمام                   | حَمَّامٌ                               |



## LESSON - 15

### EXERCISES


|            |               |                     |
|------------|---------------|---------------------|
| Wall       | دیوار         | حَائِطٌ             |
| Floor      | فرش           | طَائِفٌ             |
| Ceiling    | (اندرونی) چھت | سَقْفٌ              |
| Roof       | (بیرونی) چھت  | سَطْحٌ              |
| Watch      | گھڑی          | السَّاعَةُ          |
| Pencil     | پنسل          | قَلَمُ رِصَاصٍ      |
| Scissor    | قینچی         | مِقْصٌ              |
| Plate      | رکابی         | طَبَقٌ              |
| Toothbrush | ٹوٹھرش        | فُرْشَاةُ أَسْنَانٍ |
| Fork       | کانٹا         | شَوْكَةٌ            |
| Jam        | جام           | مَعْجُونٌ           |
| Table      | ٹیبیل         | طَاوِلَةٌ           |
| House      | گھر           | سَكْنٌ              |
| Phone      | فون           | هَاتِفٌ             |
| News Paper | اخبار         | صَحِيفَةٌ           |
| Tea Kettle | کیتل          | غَلَايَةُ شَايٍ     |



## LESSON - 15

### EXERCISES

| Dipper                         | ڈپر  | مِعْرَفَةٌ                                       |
|--------------------------------|--|--|
| Oven (Gas Oven /Electric Oven) | کوکر، گاس اُون / الیکٹریک اُون                   | بُوْتَا جَاز<br>(فُرْنُ غَازِی اَو کَہْرِبَائِی) |
| Kitchen Shelf                  | بادرچی خانے کے شیلف                              | رَفُّ الْمَطْبَیْخِ                              |
| Vacuum Cleaner                 | ویکیوم کلیئر                                     | مِکْنَسَةٌ کَہْرِبَائِیَّةٌ                      |
| Gas Stove or Electric Stove    | سٹو / چولہا<br>گیاس کا چولہا / الیکٹریک کا چولہا | مَوْقِدٌ کَہْرِبَائِی اَو غَازِی                 |



# LESSON

# 16



## LESSON - 16

### مَا هَذَا الْكَوْنُ؟

| What is this world?<br>This world is<br>creation of Allah | یہ کائنات کیا ہے؟<br>یہ کائنات اللہ کہ پیدا کردہ ہے | مَا هَذَا الْكَوْنُ؟<br>هَذَا الْكَوْنُ مَخْلُوقٌ لِلَّهِ |
|---|---|---|
| English   | Urdu  | Arabic  |
| Mountain  | پہاڑ  | جَبَلٌ  |
| Desert  | صحرا  | صَحْرَاءُ   |
| Island  | جزیرہ   | جَزِيرَةٌ   |
| Beach of River  | تپ  | شَاطِئُ   |
| Garden  | باغ   | حَدِيقَةٌ   |
| Flower  | پھول  | زَهْرٌ  |
| Trees   | درخت  | شَجَرَةٌ  |
| Forest  | جنگل  | غَابِيَةٌ   |
| Sky   | آسمان   | سَّمَاءٌ  |
| Sun   | سورج  | شَمْسٌ  |
| Star  | ستارہ   | نَجْمٌ  |
| Moon  | چاند  | قَمَرٌ  |
| Stars   | ستارے   | نَجْمَاتٌ   |
| Earth   | زمین  | أَرْضٌ  |

## LESSON - 16

### EXERCISES

### EXERCISES

|                            |                       |                                  |
|----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| What is this?              | یہ کیا ہے؟            | مَا هَذَا؟                       |
| Who created?               | کس نے پیدا کیا؟       | مَنْ خَلَقَ؟                     |
| What is the target?        | ہدف (مقصد) کیا ہے؟    | مَاذَا الْهَدَفُ؟                |
| Why?                       | کیوں؟                 | لِمَاذَا؟                        |
| What is the benefit of sun | سورج سے کیا فائدہ ہے؟ | مَا الْفَائِدَةُ مِنَ الشَّمْسِ؟ |



# LESSON

# 17



## LESSON - 17

### متی، کب، When

| English                           | Urdu                    | Arabic            |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>EXERCISES:1</b>                |                         |                   |
| When will you come?               | آپ کب آؤ گے؟            | متی تَأْتِي؟      |
| When will he go?                  | وہ کب جائے گا؟          | متی يَذْهَبُ؟     |
| When will he come out?            | وہ کب نکلے گا؟          | متی يَخْرُجُ؟     |
| When will you make him to travel? | آپ اسے کب سفر کرواؤ گے؟ | متی تُرْجِلُ؟     |
| When will you travel?             | آپ کب سفر کرو گے؟       | متی تُسَافِرُ؟    |
| When will you enter?              | آپ کب داخل ہوں گے؟      | متی تَدْخُلُ؟     |
| When will you wake up?            | آپ کب بیدار ہو گے؟      | متی تَسْتَيْقِظُ؟ |
| When will you swim?               | آپ کب تیریں گے؟         | متی تَسْبَحُ؟     |
| When will you play?               | آپ کب کھیلیں گے؟        | متی تَلْعَبُ؟     |
| When will you write?              | آپ کب لکھیں گے؟         | متی تَكْتُبُ؟     |
| When will you read?               | آپ کب پڑھیں گے؟         | متی تَقْرَأُ؟     |



## LESSON - 17

### متی، کب، When

|                                      |                                  |                              |
|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| When will you memories/protect/save? | آپ کب یاد کریں گے؟ / حفظ / حفاظت | متی تَحْفَظُ؟                |
| When did this happen?                | یہ کب ہوا؟                       | متی وَقَعَ هَذَا؟            |
| When did this occur?                 | یہ کب ہوا؟                       | متی حَدَثَ هَذَا؟            |
| When was this book written?          | یہ کتاب کب لکھی گئی تھی؟         | متی كُتِبَ هَذَا الْكِتَابُ؟ |
| When was he born?                    | وہ کب پیدا ہوا تھا؟              | متی وُلِدَ؟                  |
| When did he die?                     | وہ کب مرا تھا                    | متی تُوْفِيَ؟                |
| When was this like that?             | ایسا کب تھا؟                     | متی كَانَ هَذَا؟             |
| When were they?                      | وہ کب تھے؟                       | متی كَانُوا؟                 |
| When did she go?                     | وہ کب گئی؟                       | متی ذَهَبَتْ؟                |
| When did she do?                     | اس نے کب کیا؟                    | متی فَعَلَتْ؟                |
| When did he say?                     | اس نے کب کہا؟                    | متی قَالَ؟                   |
| When did they do?                    | انہوں نے یہ کب کیا؟              | متی فَعَلُوا؟                |



## LESSON - 17

### متی، کب، When

#### EXERCISES:2

|                            |                     |                             |
|----------------------------|---------------------|-----------------------------|
| I will come in the morning | میں صبح آؤں گا      | أَنَا آتِي فِي النَّهَارِ   |
| In the night               | رات میں             | فِي اللَّيْلَةِ             |
| The day after tomorrow     | پرسوں (آنے والا)    | بَعْدَ غَدٍ                 |
| Yesterday                  | پچھلا دن            | أَمْسٍ                      |
| Last night                 | گزشتہ رات           | الْبَارِحَةَ                |
| Day before yesterday       | پرسوں (گزر رہا ہوا) | قَبْلَ الْأَمْسِ            |
| Today                      | آج                  | الْيَوْمَ                   |
| Tomorrow                   | کل                  | غَدًا                       |
| Every night                | ہر رات              | كُلَّ اللَّيْلَةِ           |
| In the morning             | صبح کے وقت          | فِي الصُّبْحِ               |
| In the early morning       | صبح سویرے           | فِي الصُّبْحِ بَازٍ         |
| In the darkness            | اندھیرے میں         | فِي الظُّلَمِ               |
| In the last week           | گزشتہ ہفتے میں      | فِي الْأَسْبُوعِ الْمَاضِي  |
| In the coming week         | آنے والے ہفتے میں   | فِي الْأَسْبُوعِ الْقَادِمِ |
| In the last month          | گزشتہ مہینے میں     | فِي الشَّهْرِ الْمَاضِي     |
| In the last year           | گزشتہ سال میں       | فِي السَّنَةِ الْمَاضِيَةِ  |

## LESSON - 17

### متی، کب، When

|                         |                       |                            |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------|
| In the next year        | آنے والے سال میں      | فِي السَّنَةِ الْقَادِمَةِ |
| After Zohar             | ظہر کے بعد            | بَعْدَ الظُّهْرِ           |
| After Asr               | عصر کے بعد            | بَعْدَ العَصْرِ            |
| After Fajar             | فجر کے بعد            | بَعْدَ الفَجْرِ            |
| After Maghreb           | مغرب کے بعد           | بَعْدَ المَغْرِبِ          |
| After Isha              | عشاء کے بعد           | بَعْدَ العِشَاءِ           |
| In the time of Tahajjud | تہجد کے وقت میں       | فِي التَّهَجُّدِ           |
| After sun rise          | سورج طلوع ہونے کے بعد | بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ   |
| After sun set           | سورج غروب ہونے کے بعد | بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ   |
| Night                   | رات                   | لَيْلٍ                     |
| Nights                  | راتیں                 | لَيَالٍ                    |
| Day                     | دن                    | يَوْمٍ                     |
| Days                    | دنوں                  | أَيَّامٍ                   |
| Year                    | سال                   | سَنَةٍ                     |
| Years                   | سالوں                 | سَنَوَاتٍ                  |

## LESSON - 17



## LESSON - 17

### Portion of day & time

| Portions of Day & Time | دن اور وقت کی تقسیم | Aqsaamul Yaumi waz-Zaman | أَقْسَامُ الْيَوْمِ وَالزَّمَنِ |
|------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Early                  | جلدی                | Mubakkir                 | مُبَكِّرٌ                       |
| Late                   | تاخیر               | Muta'akkhir              | مُتَأَخِّرٌ                     |
| Day time               | دن میں              | Fin nahaar               | فِي النَّهَارِ                  |
| At night               | رات میں             | Fil lail                 | فِي اللَّيْلِ                   |
| Today                  | اس دن               | Hazal yaum               | هَذَا الْيَوْمِ                 |
| Tonight                | اس رات              | Hazihil lail             | هَذِهِ اللَّيْلَةِ              |
| All day                | دن بھر              | Kullul yaum              | كُلِّ الْيَوْمِ                 |
| All night              | رات بھر             | Kullul lailah            | كُلِّ اللَّيْلَةِ               |
| Tomorrow               | کل                  | Ghadan                   | غَدًا                           |
| Yesterday night        | کل کی رات           | Albaarihah               | الْبَارِحَةَ                    |
| Last night             | گزری ہوئی رات       | Al-lailatul maaziyah     | الَّيْلَةَ الْمَاضِيَةَ         |
| Coming night           | آئی والی رات        | Al-lailatul qaadimah     | الَّيْلَةَ الْقَادِمَةَ         |

## LESSON - 17

### Portion of day & time

|                |               |                    |                        |
|----------------|---------------|--------------------|------------------------|
| Every day      | ہر دن         | Kullu yaum         | كُلُّ يَوْمٍ           |
| Every night    | ہر رات        | Kullu lailah       | كُلُّ اللَّيْلَةِ      |
| Dawn           | فجر           | Alfjr              | الْفَجْرُ              |
| Morning        | صبح           | As-sabaah          | الصَّبَاحُ             |
| Before noon    | ظہر سے پہلے   | Qablaz zuhar       | قَبْلَ الظُّهْرِ       |
| Noon           | ظہر           | Az-zuhar           | الظُّهْرُ              |
| Afternoon      | ظہر کے بعد    | Ba'daz zuhar       | بَعْدَ الظُّهْرِ       |
| Sunset         | غروب آفتاب    | Ghurobush shams    | غُرُوبِ الشَّمْسِ      |
| Evening        | شام           | Almasaa            | الْمَسَاءُ             |
| Night          | رات           | Allail             | اللَّيْلُ              |
| Midnight       | آدھی رات      | Muntasiful lail    | مُنْتَصَفِ اللَّيْلِ   |
| In the morning | صبح میں       | Fis-sabaah         | فِي الصَّبَاحِ         |
| Early-morning  | صبح سویرے     | As-sabaahul baakir | الصَّبَاحِ الْبَاكِرِ  |
| In the evening | شام میں       | Fil masaa          | فِي الْمَسَاءِ         |
| In a week      | ہفتہ میں      | Fi usboo           | فِي اسْبُوعِ           |
| Last week      | گزرا ہوا ہفتہ | Al-usbo'ul-maazi   | الْأُسْبُوعِ الْمَاضِي |

## LESSON - 17

### Portion of day & time

|            |                   |                     |                         |
|------------|-------------------|---------------------|-------------------------|
| Nest week  | آنے والا ہفتہ     | Al-usbo'ul-qaadim   | الْأُسْبُوعُ الْقَادِمُ |
| In a month | مہینے میں         | Fi shahr            | فِي شَهْرٍ              |
| Last month | گزر رہا ہوا مہینہ | Ash-shahrul maazi   | الشَّهْرُ الْمَاضِي     |
| Next month | آنے والا مہینہ    | Ash-shahrul taali   | الشَّهْرُ الْتَالِي     |
| In a year  | سام میں           | Fi sanah            | فِي سَنَةٍ              |
| Last year  | گزر رہا ہوا سال   | As-sanatul maaziyah | السَّنَةُ الْمَاضِيَّةُ |
| Next year  | آنے والا سال      | As-sanatul qaadimah | السَّنَةُ الْقَادِمَةُ  |
| Century    | صدی               | Qarn                | قَرْنٌ                  |

# LESSON - 17

## Day & night

| The Days & Time | دن اور اوقات | Al-ayyaam wal-auqaat | الْأَيَّامُ وَالْأَوْقَاتُ |
|-----------------|--------------|----------------------|----------------------------|
| Sunday          | اتوار        | Yaumul-Ahad          | يَوْمُ الْأَحَدِ           |
| Monday          | پير          | Yaumul-Isnain        | يَوْمُ الْإِسْنَيْنِ       |
| Tuesday         | منگل         | Yaumus-Sulaasaa      | يَوْمُ الْثَلَاثَاءِ       |
| Wednesday       | چارشنبه      | Yaumul-Arbi'aa       | يَوْمُ الْأَرْبَعَاءِ      |
| Thursday        | جمعرات       | Yaumul-Khamees       | يَوْمُ الْخَمِيسِ          |
| Friday          | جمعہ         | Yaumul-Juju'ah       | يَوْمُ الْجُمُعَةِ         |
| Saturday        | ہفتہ         | Yaumus-Sabt          | يَوْمُ السَّبْتِ           |



# LESSON - 17

## Day & night


|                          |                   |                  |                    |
|--------------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Today                    | آج                | Al-Yaum          | الْيَوْمَ          |
| Yesterday                | کل                | Al-Ams           | الْأَمْسَ          |
| The day before yesterday | گزر رہا ہوا پرسوں | Qablal Ams       | قَبْلَ الْأَمْسِ   |
| Tomorrow                 | آنے والا کل       | Ghadan/ bukrah   | عَدَا الْبُكْرَةَ  |
| The day after tomorrow   | آنے والا پرسوں    | Ba'da bukrah     | بَعْدَ الْبُكْرَةَ |
| The day after tomorrow   | پرسوں             | Ba'da Ghad       | بَعْدَ غَدًا       |
| Year                     | سال               | Sanah/ Sanawaath | سَنَةً-سَنَوَاتٍ   |
| Morning                  | صبح               | Subh/ Subaah     | صُبْحُ صَبَاحٍ     |
| Night                    | رات               | Lail / Layaali   | لَيْلٍ- لَيَالِي   |
| Day                      | دن                | Yaum / Ayyaam    | يَوْمٍ- أَيَّامٍ   |

# LESSON - 17

## The months

| The Months | مہینے  | Ash-Shuhoor | الشُّهُورُ   | The Months     | الشُّهُورُ           |
|------------|--------|-------------|--------------|----------------|----------------------|
| January    | جنوری  | Yanaayir    | يَنَّايرُ    | Muharram       | مُحَرَّم             |
| February   | فروری  | Fabraaer    | فَبْرَايرُ   | Safar          | صَفَر                |
| March      | مارچ   | Maaris      | مَارِسُ      | Rabi-al-Awwal  | رَبِيعَ الْأَوَّلِ   |
| April      | اپریل  | Abreel      | أَبْرِيْلُ   | Rabi-al-Akhir  | رَبِيعَ الْآخِرِ     |
| May        | مئی    | Maayu       | مَائِيُو     | Jamadil-awwal  | جَمَادِي الْأَوَّلِي |
| June       | جون    | Yuniyu      | يُونِيُو     | Jamadil-Aakhir | جَمَادِي الْآخِرَةِ  |
| July       | جولائی | Yuliyu      | يُولِيُو     | Rajab          | رَجَب                |
| August     | آگست   | Aghastus    | أَغَسْطُسُ   | Sha'abaaan     | شَعْبَانَ            |
| September  | سپتمبر | Sabtambar   | سَبْتَمْبَرُ | Ramdhan        | رَمَضَانَ            |
| October    | اکتوبر | Aktoobar    | أَكْتُوبَرُ  | Shawwaal       | شَوَّال              |
| November   | نومبر  | Nufimbar    | نُوفِمْبَرُ  | Dhu-al-qa'dah  | ذُو الْقَعْدَةِ      |
| December   | ڈسمبر  | Disambar    | دِيْسَمْبَرُ | Dhu-al-Hijjah  | ذُو الْحِجَّةِ       |

## الكلمات العربية



Inside the Airport

ایئر پورٹ کے اندر

داخل المطار

| ENGLISH                     | اردو  | ROMAN                              | عربي  |
|-----------------------------|---|------------------------------------|---|
| Where is the toilet please? | برائے مہربانی بیت الخلاء کہاں ہے (بتلائیے)؟ | Aina dauratul miyaaah min fazlik?  | أَيْنَ دَوْرَةُ الْمَيْوَاهِ مِنْ فَضْلِكَ؟ |
| Airport.                    | ہوائی اڈہ                                   | Al-mataar                          | الْمَطَارُ                                  |
| The plane.                  | جہاز  | At-taerah                          | الطَّائِرَةُ                                |
| Flight.                     | ہوائی سفر                                   | Rihlatu tayaraan                   | رِحْلَةُ طَيْرَانٍ                          |
| Luggage.                    | سامان سفر (مٹے)                             | Amti'atus-safar (al-hqaaeb)        | أَمْتِيعَةُ السَّفَرِ (الْحَقَائِبُ)        |
| Baggage.                    | سامان                                       | Al-amti'atu                        | الْأَمْتِيعَةُ                              |
| Hand bag.                   | ہاتھ والا بستہ                              | Haqeebatu yad (shantatu yad)       | حَقِيبَةُ يَدٍ (شَنْطَةُ يَدٍ)              |
| Bag.                        | بستہ  | Shantah (Haqeebah)                 | شَنْطَةُ (حَقِيبَةُ)                        |
| Arrival.                    | پہنچنا                                      | Al-wusool                          | الْوُصُولُ                                  |
| Departure.                  | نکلنا                                       | Al-raheel\ al-mughaadarah          | الرَّحِيلُ / الْمَغَادَرَةُ                 |
| Luggage shelf.              | خازنہ سامان                                 | Rafful haqaaeb (makhzanul haqaaeb) | رَفُّ الْحَقَائِبِ (مَخْزَنُ الْحَقَائِبِ)  |
| Plane window.               | ہوائی جہاز کی کھڑکیاں                       | Naafizatul-taerah                  | نَافِذَةُ الطَّائِرَةِ                      |
| Tray meal.                  | ایک وقت کا کھانا                            | Al-wajbah                          | الْوَجْبَةُ                                 |
| Emergency exit.             | ہنگامی نکلنے والا دروازہ                    | Babut-twaari'                      | بَابُ الطَّوَارِئِ                          |
| No smoking.                 | سگریٹ نوشی ممنوع ہے                         | Mamnoo`ut tadhkeen                 | مَمْنُوعُ التَّدْخِينِ                      |

## الكلمات العربية

|                                  |  |  |  |
|----------------------------------|--|--|--|
| Departure lounge.                | انتظار گاہ                             | Saalatul mughaadarah<br>(Saalatur raheel)    | صَالَةَ الْمُغَادَرَةِ (صَالَةُ<br>الرَّحِيلِ)       |
| Flight number.                   | ہوائی جہاز کا نمبر                     | Raqamur rihlah (raqamu<br>rihlatit tayaraan) | رَقْمُ الرَّحْلَةِ (رَقْمُ رَحْلَةِ<br>الطَّيْرَانِ) |
| The plane will take off<br>soon. | ابھی ہوائی جہاز پرواز کرے گا۔          | Saufa tuqli`ut taaeratu<br>haalan            | سَوْفَ تُقْلِعُ الطَّيْرَةَ خَالًا                   |
| Have a good trip.                | میں آپ کے اچھے سفر کی تمنا<br>کرتے ہوں | Atamanna laka rihlatan<br>tayyibah Saecedah  | أَتَمَنَّى لَكَ رَحْلَةً طَيِّبَةً سَعِيدَةً         |
| Fasten your seat belt.           | اپنا سیٹ بلت لگا لیجیے                 | Irbit hizaamak                               | إِرْبِطْ حِزَامَكَ                                   |
| Ticket.                          | تکٹ                                    | tazkirah                                     | تَذْكِرَةٌ   |
| Runway.                          | ہوائی جہاز کی اتران کا راستہ           | Mudarrajut taaeraat<br>(mahbitut taaeraat)   | مُدْرَجُ الطَّيْرَاتِ (مَهْبِطُ<br>الطَّيْرَاتِ)     |
| Landing.                         | ہوائی جہاز اترنا۔                      | Hubootut taaerah                             | هُبُوطُ الطَّيْرَةِ                                  |
| Take off.                        | پرواز                                  | Al-iqlaa`au                                  | الْإِقْلَاعُ   |
| Seat.                            | نشہ                                    | Al-maq`ad                                    | الْمَقْعَدُ  |
| Crew.                            | ہوائی جہاز کا عملہ                     | Taaqimut taaerah                             | طَائِفَةُ الطَّيْرَةِ                                |
| Pilot.                           | جہاز ران / پائلٹ                       | Qaaedatut taaerah \ rubbaan<br>\ kaabitan    | قَائِدُ الطَّيْرَةِ / رُبَّانُ /<br>كَابِيتَانُ      |

## الكلمات العربية



| ENGLISH              | اردو                                    | ROMAN              | عربي                      |
|----------------------|---|--------------------|---------------------------|
| Street.              | سڑک                                     | Ash-shaari'au      | السَّارِعُ                |
| Shop.                | دکان                                    | Ad-dukkaan         | الدُّكَّانُ               |
| Traffic light.       | ٹرافک لائٹ                              | Isharatul muroor   | إِشَارَةُ الْمُرُورِ      |
| Pavement / Foot path | فٹ پات                                  | Ar-raseef          | الرَّصِيفُ                |
| Car.                 | کار                                     | sayyarah           | سَيَّارَةٌ                |
| Taxi.                | کرایہ کی کار                            | Sayyaratul ujah    | سَيَّارَةُ الْأَجْرَةِ    |
| Cafe.                | (چائے کی) ہوٹل                          | Maq'ha             | مَقْهَى                   |
| Restaurant.          | ہوٹل                                    | Mat'am             | مَطْعَمٌ                  |
| Bus stop.            | بس اسٹاپ                                | Mahattatul utobees | مَحْطَّةُ الْأَتُوبِيِّسِ |
| Hotel.               | ہوٹل                                    | funduq             | فُنْدُقٌ                  |
| Bridge.              | پل                                      | Jisrun\ kubri      | جِسْرٌ / كُبْرِي          |
| Pedestrian crossing. | زیرا کراسنگ (پیدل چلنے والوں کی کراسنگ) | Uboorul mushaah    | عُبُورُ الْمَشَاةِ        |
| Letter box.          | ڈاک کا ڈبہ                              | Sundooqul bareedi  | صُنْدُوقُ الْبَرِيدِ      |
| Railway station.     | ریلوے اسٹیشن                            | Mahattatul qitaar  | مَحْطَّةُ الْقِطَارِ      |

## الكلمات العربية

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| Pedestrians.                                       | پیدل چلنے والے  | Al-mushaatu   | الْمُشَاةُ   |
| City center.                                       | شہر کے بیچ  | Wasatul madinah   | وَسَطُ الْمَدِينَةِ  |
| Museum.  | عجائب گھر   | Mut'haf   | مُتَحَفٌ   |
| Shopping center / mall.                            | تجارتی مرکز   | Al-markazut tijari  | الْمَرْكَزُ التِّجَارِيّ   |
| University.  | یونیورسٹی   | Al-jamiah   | الْجَامِعَةُ   |
| Zoo.   | چڑیا گھر  | Hadeeqatul hayawaanaat  | حَدِيقَةُ الْحَيَوَانَاتِ  |
| Apartment block.                                   | اپارٹمنٹ کی عمارت   | Emaaratun sakaniiyah  | عِمَارَةٌ سَكْنِيَّةٌ  |
| Excuse me, could you Tell me the way to... please? | معذرت خواہ ہوں، کیا مہربانی<br>ایسا راستہ بتا سکتے ہیں جو<br>مجھے ---- تک پہنچا دے۔ | Ma'ziratan, hal tukhbiruni anit tareeqil mu'addi ila... min fazlik? | مَعْدِرَةٌ، هَلْ تُخْبِرُنِي عَنِ الطَّرِيقِ الْمُوَدَّى إِلَى... مِنْ فَضْلِكَ؟ |
| I would like to know.                              | میں جانا چاہتا ہوں۔   | Ureedu an a'rifa  | أُرِيدُ أَنْ أَعْرِفَ  |
| Where is the police station?                       | پولیس اسٹیشن کہاں ہے؟   | Aina qismush shurtah?   | أَيْنَ قِسْمُ الشُّرْطَةِ؟   |
| Where is the tourist office?                       | سیر و سیاحت کا دفتر کہاں ہے؟  | Ainaal maktabus siyaahah  | أَيْنَ الْمَكْتَبِ السِّيَاحَةِ؟   |
| Can i get there by bus?                            | کیا میں وہاں بذریعہ بس جا سکتا<br>ہوں؟  | Hal yumkinu an azhaba ila hunaaka bil utoobees?                     | هَلْ يُمَكِّنُ أَنْ أَذْهَبَ إِلَى هُنَاكَ بِالْأُتُوبِيسِ؟                      |
| Where is the nearest bus stop?                     | قریب ترین بس اسٹاپ کہاں ہے؟   | Aina aqrabu mauqifin lil utoobees                                   | أَيْنَ أَقْرَبُ مَوْقِفٍ لِالْأُتُوبِيسِ؟  |
| Is there a public toilet nearby?                   | کیا یہاں قریب میں بیت الخلاء<br>ہیں؟  | Hal yujadu dauraatu miyahin qariban min huna?                       | هَلْ يُوْجَدُ دَوْرَاتُ مِيَاهٍ قَرِيبًا مِنْ هُنَا؟                             |
| Where can I get a taxi?                            | مجھے کرایہ کی کار کہاں مل سکے<br>گی؟  | Aina yumkinu an ajida sayyarata ujah?                               | أَيْنَ يُمَكِّنُ أَنْ أَجِدَ سَيَّارَةَ أُجْرَةٍ؟                                |
| Take me to...please.                               | مجھے امید ہے کہ تم مجھے<br>----- تک پہنچا دو گے۔                                    | Arju an toosilni ila....  | أَرْجُو أَنْ تُوسِّلَنِي إِلَى..   |
| How much will it cost?                             | کرایہ کتنا ہوا؟   | Kamil ujah?   | كَمِ الْأُجْرَةُ؟  |



## الكلمات العربية



| The Train     | اردو                    | ریل گاڑی               | القطار                    | 9 |
|---------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|---|
| ENGLISH       | اردو                    | ROMAN                  | عربی                      |   |
| Shop window.  | انٹرفیس کی دکان         | Waajihatul mahal       | وَأَجْهَةُ الْمَحَلِّ     |   |
| Lamp post.    | لیمپ پوسٹ               | Umoodu inarah          | عُمُودُ إِنَارَةٍ         |   |
| dust bin.     | کوڑا دان                | Sallatu muhmalaat      | سَلَّةُ مَهْمَلَاتٍ       |   |
| The old town. | پرانہ شہر               | Al-madeenatul qadeemah | الْمَدِينَةُ الْقَدِيمَةُ |   |
| He travels    | وہ سفر کرتا ہے / کرے گا | Yusaafiru              | يُسَافِرُ                 |   |
| By train.     | بذریعہ ریل گاڑی         | Bilqitaar              | بِالْقِطَارِ              |   |
| First class.  | فرسٹ کلاس               | Ad-darjatul oola       | الْمَدْرَجَةُ الْأُولَى   |   |
| Carriage.     | ٹرائی                   | Arabatul qitaar        | عَرَبَةُ الْقِطَارِ       |   |
| Fare.         | کرایہ                   | Ujratun                | أَجْرَةٌ                  |   |
| Ticket.       | ٹکٹ                     | Tazkiratun             | تَذْكِرَةٌ                |   |
| Platform.     | پلاٹ فام                | Raseeful qitaar        | رَصِيفُ الْقِطَارِ        |   |
| He reaches    | وہ پہنچتا ہے / پہنچے گا | Yasilu                 | يَصِلُ                    |   |
| Porter.       | قلی                     | Al-hammaal             | الْحَمَّالُ               |   |
| Delay.        | تاخیر کرتا ہے / کرے گا  | Yata'akhkharu          | يَتَأَخَّرُ               |   |
| Suitcase.     | سفر کا بستہ             | Haqeebatus safar       | حَقِيبَةُ السَّفَرِ       |   |



## تعاہیر مفیدہ

| Useful expressions | مفیدہ تعہیرات                          | تعاہیر مفیدہ                     | 02   |
|--------------------|--|----------------------------------|--|
| Thank you!         | آپ کا شکر یہ                           | Shukran lak                      | شُكْرًا لَكَ ۱                             |
| Please!            | برائے مہربانی                          | Min fazlik                       | مِنْ فَضْلِكَ ۲                            |
| Excuse me!         | معاف کیجیے                             | Saamihni                         | سَامِحْنِي ۳                               |
| All right!         | ٹھیک ہے                                | Tayyib                           | طَيِّبٌ ۴                                  |
| That's right       | ٹھیک ہے                                | Hasanan                          | حَسَنًا ۵                                  |
| You are welcome.   | خوش آمدید                              | Ahlan bik<br>(ahlan wa sahlan)   | أَهْلًا بِكَ (أَهْلًا وَسَهْلًا) ۶         |
| I'm sorry!         | مجھے افسوس ہے /<br>میں معذرت خواہ ہوں۔ | Aasif                            | أَسِيفٌ ۷                                  |
| Never mind!        | کوئی بات نہیں                          | Baseet                           | بَسِيطٌ (لَا يُهِمُّكَ) ۸                  |
| Perhaps.           | کبھی کبھار                             | Rubbama                          | رُبَّمَا ۹                                 |
| Excuse me          | میں معافی مانگتا ہوں۔                  | Afwan                            | عَفْوًا ۱۰                                 |
| I hope so.         | میں امید کرتے ہوں                      | Aamalu zaalik                    | أَمَلٌ ذَلِكَ ۱۱                           |
| Of course.         | بے شک                                  | Bittab'a\ tab'an                 | بِالطَّبَعِ / طَبَعًا ۱۲                   |
| Sure (Surely).     | یقیناً (یقین سے)                       | Bitta'keed                       | بِالْيَقِينِ ۱۳                            |
| Right now.         | ابھی                                   | Haalan / Al-aan                  | حَالًا / الْآنَ ۱۴                         |
| As usual.          | کی طرح                                 | Kal'aadah \Aadatan<br>kalmu'taad | كَالْعَادَةِ / عَادَةً / كَالْمُعْتَادِ ۱۵ |
| In general.        | عام طور پر                             | Alal umoom                       | عَلَى الْعُمُومِ ۱۶                        |
| At least.          | کم از کم                               | Alal aqal                        | عَلَى الْأَقَلِّ ۱۷                        |
| Not at all.        | بالکل                                  | Itlaaqan                         | إِطْلَاقًا ۱۸                              |
| For a while.       | تھوڑی دیر کے لیے                       | Li fatratim maa                  | لِفَتْرَةٍ مَّا ۱۹                         |
| By the way.        | کسی بھی حال میں                        | Ala ayyi haal                    | عَلَى أَيِّ حَالٍ ۲۰                       |
| Just a minute.     | ایک منٹ                                | Daqeeqah waahidah                | دَقِيقَةً وَاحِدَةً ۲۱                     |
| A little bit.      | تھوڑا                                  | Qaleelan                         | قَلِيلًا ۲۲                                |
| If necessary.      | اگر ضروری ہو تو                        | Iza kaana zurooriyyan            | إِذَا كَانَ ضَرُورِيًّا ۲۳                 |

## تعاير مفيدة

|                                      |                         |                                     |  |    |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--|----|
| Not so fast.                         | اس رفتار سے نہیں        | Laisa bihaazihis sur'ah             | لَيْسَ بِهَذِهِ السَّرْعَةِ                  | ۲۴ |
| Not long ago.                        | کچھ دیر پہلے            | Laisa min zamanin ba'eed            | لَيْسَ مِنْ زَمَنِ بَعِيدٍ                   | ۲۵ |
| Side by side.                        | پہلو بہ پہلو            | Jamban ila jambin                   | جَنْبًا إِلَى جَنْبٍ                         | ۲۶ |
| More and more.                       | زیادہ سے زیادہ          | Aksar fa aksar                      | أَكْثَرُ فَأَكْثَرُ                          | ۲۷ |
| No one else.                         | کوئی دوسرا نہیں         | Ma min ahadin aakhar                | مَا مِنْ أَحَدٍ آخَرَ                        | ۲۸ |
| This and that.                       | یہ اور وہ               | Haaza wa zaak                       | هَذَا وَذَلِكَ                               | ۲۹ |
| That's too bad.                      | برا انجام ہوگا۔         | Sayyi'un lil-ghaayah                | سَيِّئٌ لِلْغَايَةِ                          | ۳۰ |
| At last.                             | آخر کار                 | Akheeran                            | أَخِيرًا                                     | ۳۱ |
| On his way.                          | راستہ میں               | Fi tareeqihi                        | فِي طَرِيقِهِ                                | ۳۲ |
| On the way back.                     | واپسی کی راہ میں        | Fi tareeqil audah                   | فِي طَرِيقِ الْعُودَةِ                       | ۳۳ |
| Each other.                          | ایک دوسرے کے لیے        | Ba'zuhum liba'z                     | بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ                          | ۳۴ |
| Per person.                          | ایک آدمی کے لیے         | Lish-shakhsil wahid                 | لِلشَّخْصِ الْوَاحِدِ                        | ۳۵ |
| For rent.                            | کرایہ کے لیے            | Lil 'eejaar                         | لِلْإِيجَارِ                                 | ۳۶ |
| For sale.                            | فروخت کے لیے            | Lil-bae'                            | لِلْبَيْعِ                                   | ۳۷ |
| No problem.<br>(It's not a problem). | مشکل کی بات نہیں        | Maa fi mushkilah                    | مَا فِي مُشْكِلَةٍ                           | ۳۸ |
| How exciting!                        | یہ کتنی حیرت کی بات ہے۔ | Kam haaza mudhish!                  | كَمْ هَذَا مُدْهِشٌ!                         | ۳۹ |
| Watch out / Look out!                | چوکنا ہو جاؤ            | Intabih                             | إِنْتَبِهْ                                   | ۴۰ |
| Be careful!                          | ہوشیار رہو              | Ihzar                               | إِحْذَرْ                                     | ۴۱ |
| Don't forget!                        | مت بھولو                | La tansa                            | لَا تَنْسَ                                   | ۴۲ |
| Have a seat!                         | بیٹھ جائیے              | Tafazzal biljuloos / tafazzal ijlis | تَفَضَّلْ بِالْجُلُوسِ / تَفَضَّلْ وَاجْلِسْ | ۴۳ |
| Help me!                             | میری مدد کیجیے          | Saa'idni                            | سَاعِدْنِي                                   | ۴۴ |
| Wait for me!                         | میرا انتظار کیجیے       | Intazirnee                          | إِنْتَظِرْنِي                                | ۴۵ |

## الكلمات العربية المستخدمة اليومية

Useful Arabic words for daily usage

روز مرہ بات چیت میں استعمال  
ہونے والے چھوٹے چھوٹے مفید جملے

الكلمات العربية المستخدمة  
اليومية - 1

03

| Optional | English                      | اردو                 | Roman                                   | عربی  | S.No |
|----------|------------------------------|----------------------|---|---|------|
|          | Who are you?                 | آپ کون ہیں؟          | Man anta?                               | مَنْ أَنْتَ؟  | ۱    |
|          | What is your name?           | آپ کا نام کیا ہے؟    | Masmuk?                                 | مَا اسْمُكَ؟  | ۲    |
|          | Come here!                   | یہاں آئیے!           | Ta'aal huna                             | تَعَالِ هُنَا                                       | ۳    |
|          | Go there!                    | وہاں جائیے!          | Izhab hunaak                            | اِذْهَبْ هُنَاكَ                                    | ۴    |
|          | Where did you come from?     | آپ کہاں سے آئے ہیں؟  | Min aina ji't?                          | مِنْ أَيْنَ جِئْتَ؟                                 | ۵    |
|          | How are you?                 | آپ کا کیا حال ہے۔    | Kaifa haaluk?                           | كَيْفَ حَالُكَ؟                                     | ۶    |
|          | Where is your home?          | آپ کا گھر کہاں ہے۔   | Ayna baituk?                            | أَيْنَ بَيْتُكَ؟                                    | ۷    |
|          | sit beside me or sit with me | میرے پاس بیٹھ جائیے۔ | Ijlis indi \ udnu minni \ taqarrab ilay | اِجْلِسْ عِنْدِي / اُدْنُ مِيَّ / تَقَرَّبْ اِلَيَّ | ۸    |
|          | Sit properly                 | اچھی طرح بیٹھیے۔     | Ijlis sawiyyan                          | اِجْلِسْ سَوِيًّا                                   | ۹    |
|          | Make yourself comfortable    | آرام سے بیٹھیے۔      | Istarih                                 | اِسْتَرِحْ  | ۱۰   |
|          | Make space for other to sit  | کھل کر بیٹھیے۔       | Tafassah fil majaalisi                  | تَفَسَّحْ فِي الْمَجَالِسِ                          | ۱۱   |
|          | Where are you going?         | آپ کہاں جا رہے ہیں۔  | Ayna tazhab \ ayna tarooh               | أَيْنَ تَذْهَبُ / أَيْنَ تَرُوحُ                    | ۱۲   |
|          | I am thirsty                 | میں پیاسا ہوں۔       | Ana atshaan                             | أَنَا عَطْشَانٌ                                     | ۱۳   |
|          | Please bring water for me    | پانی لائیے۔          | Jib maa' \ I'ti bil maa'                | جِبْ مَاءً / اِئْتِ بِالْمَاءِ                      | ۱۴   |
|          | Bring it quickly             | جلدی لائیے۔          | Jib bisur'ah                            | جِبْ بِسُرْعَةٍ / اَعْطِنِي بِسُرْعَةٍ              | ۱۵   |

## الكلمات العربية المستخدمة اليومية

| Optional | English                                 | اردو                              | Roman                         | عربي                                 | S.No |
|----------|---|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|------|
|          | Bring it chilled water                  | مجھے ٹھنڈا پانی پلائیے۔           | Isqini maa'an baridan         | إِسْقِينِي مَاءً بَارِدًا            | ۱۶   |
|          | Don't give me hot water                 | مجھے گرم پانی مت پلاؤ۔            | La tasqini maa'an hameeman    | لَا تَسْقِينِي مَاءً حَمِيمًا        | ۱۷   |
|          | Give me pure water                      | تازہ پانی پلائیے۔                 | Jib maa'an jayyidan\ taazijan | جِبِّ مَاءً جَيِّدًا / طَارِجًا      | ۱۸   |
|          | Don't eat dry bread                     | سوکھی روٹی مت کھائیے۔             | La ta'kul khubzan jaaffan     | لَا تَأْكُلْ خُبْزًا جَافًا          | ۱۹   |
|          | I am hungry                             | میں بھوکا ہوں۔                    | Ana jaae' \ jau'aan           | أَنَا جَائِعٌ / جَوْعَانٌ            | ۲۰   |
|          | Please give me something to eat         | مجھے کچھ کھلائیے۔                 | At'imni shaian                | أَطْعِمْنِي شَيْئًا                  | ۲۱   |
|          | I am full/my stomach is full.           | میں سیر ہو گیا۔                   | Shabi'tu                      | شَبِعْتُ                             | ۲۲   |
|          | Heat the water                          | پانی گرم کیجیے۔                   | Sakkhinill maa'               | سَخِّنِ الْمَاءَ                     | ۲۳   |
|          | Cool the water                          | پانی ٹھنڈا کیجیے۔                 | Barridil maa'                 | بَرِّدِ الْمَاءَ                     | ۲۴   |
|          | The water has been heated               | پانی گرم ہو گیا۔                  | Hummal maa'                   | حُمَّ الْمَاءَ                       | ۲۵   |
|          | Water has been cooled.                  | پانی ٹھنڈا ہو گیا۔                | Baridal maa'                  | بَرِّدَ الْمَاءَ                     | ۲۶   |
|          | Keep quiet. may Allah have mercy on you | اللہ آپ پر رحم کرے ، چپ ہو جائیے۔ | Uskut, Allahu yarhamuk        | أُسْكُتْ، اللَّهُ يَرْحَمُكَ         | ۲۷   |
|          | Walk slowly                             | آہستہ چلیے۔                       | Hawnan hawnan\ ala rislik     | هَوْنًا هَوْنًا / عَلَيَّ وَرِسْلِكَ | ۲۸   |
|          | What are you reading?                   | آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟               | Maaaza taqra'?                | مَاذَا تَقْرَأُ؟                     | ۲۹   |
|          | I am reading my lesson.                 | میں اپنا سبق پڑھ رہا ہوں۔         | Aqra'au darsi                 | أَقْرَأُ دَرْسِي                     | ۳۰   |
|          | Read loudly                             | بلند آواز سے پڑھیے۔               | Iqra bi sautin aalin          | إِقْرَأْ بِصَوْتٍ عَالٍ              | ۳۱   |

## الكلمات العربية المستخدمة اليومية

| Optional                | English                     | اردو                       | Roman                           | عربي                                | S.No |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------|
|                         | He ran away when I came.    | میرے آ کر وہ بھاگ نکلا۔    | Wa huwa qad farra inda ma ji'tu | وَهُوَ قَدْ فَرَّ عِنْدَ مَا جِئْتُ | ۳۲   |
| ايش انخبارك/ ايش يعملون | What is going on?           | کیا ہو رہا ہے؟             | Maaza ya'maloon                 | مَاذَا يَعْمَلُونَ                  | ۳۳   |
|                         | Don't even ask that!        | وہ تو پوچھو ہی مت          | Fazlan an zaalik                | فَضْلًا عَنِ ذَلِكَ                 | ۳۴   |
| الضواب معك              | You are right               | آپ ٹھیک کہتے ہیں۔          | Anta saaib                      | أَنْتَ صَابِبٌ                      | ۳۵   |
| أنت غلطان               | It is your mistake          | آپ غلطی پر ہیں۔            | Innaka mukhti'un                | إِنَّكَ مُخْطِئٌ                    | ۳۶   |
| خليك عندك/ اخلية جانبا  | Set it aside                | اس کو ایک طرف رکھ دیجیے۔   | za'hu jaaniban                  | ضَعُهُ جَانِبًا                     | ۳۷   |
|                         | Yes, now you said it right. | جی ہاں، اب آپ نے ٹھیک کہا۔ | N'am al'aan qulta sadeedan      | نَعَمْ الْآنَ قُلْتَ سَدِيدًا       | ۳۸   |
|                         | Like or as                  | جیسا کہ / چونکہ            | Kamaa                           | كَمَا                               | ۳۹   |
|                         | Like that                   | جیسا کہ وہ۔                | Kamaa huwa                      | كَمَا هُوَ                          | ۴۰   |
|                         | As you wish                 | جیسے آپ مناسب سمجھیں۔      | Kama tara                       | كَمَا تَرِي                         | ۴۱   |
|                         | The best opinion            | غالب۔                      | Alar-raajeh                     | عَلَى الرَّاجِحِ                    | ۴۲   |
|                         | At least                    | کم سے کم۔                  | Alal aqal                       | عَلَى الْأَقْلَى                    | ۴۳   |
| ما استطعت/ یا فکانک     | However it may be possible  | جیسے بھی ممکن ہو           | Kaifa ma amkan                  | كَيْفَ مَا أَمْكَنَ                 | ۴۴   |
|                         | As much as possible         | جتنا ہو سکے                | Qadra ma amkan                  | قَدْرَ مَا أَمْكَنَ                 | ۴۵   |
|                         | As soon as possible         | جتنی جلدی ہو سکے۔          | Bi-asra' ma yumkin              | بِأَسْرَعِ مَا يُمْكِنُ             | ۴۶   |
| ما بك يا رجل؟           | What happen to him?         | اسے کیا ہو گیا؟            | Ma lahu ?                       | مَا لَهُ؟                           | ۴۷   |

## الكلمات العربية المستخدمة اليومية

| Optional | English  | اردو                                 | Roman  | عربي  | S.No |
|----------|--|--------------------------------------|--|---|------|
|          | Pleasant place   | خوشگوار مقام۔                        | Al-makaanul mureeh                               | أَمْكَانُ الْمُرِيحِ  | ۴۸   |
|          | Be careful next time.  | آئندہ احتیاط کیجیے۔                  | Ihtariz marratan ukhra                           | إِحْتَرِضْ مَرَّةً أُخْرَى                                  | ۴۹   |
|          | Don't do it again!   | پھر ایسا نہ کرنا۔                    | La tu'ed marratan ukhra                          | لَا تُعِيدْ مَرَّةً أُخْرَى                                 | ۵۰   |
|          | Stay away from me! get out of here!  | میرے سامنے سے<br>دفع ہو جاؤ۔         | Ibta'id an amaami                                | إِبْتَعِدْ عَنِّ أَمَامِي                                   | ۵۱   |
|          | Come here quickly!   | جلدی میرے پاس<br>آؤ۔                 | Asri' ilay                                       | أَسْرِعْ إِلَيَّ  | ۵۲   |
|          | This rumor is false.<br>Or this is not the<br>reality. Or this news<br>is not correct. | یہ انواہ غلط ہے۔                     | Hazal khabru maa fish \laa shai/ maa fi haqeeqah | هَذَا الْخَبْرُ مَا فِئْنَ لَا<br>شَيْءٍ مَّا فِي حَقِيقَةٍ | ۵۳   |
|          | I will soon die of<br>starvation.  | عنقریب میں بھوکا<br>مر جاؤں گا۔      | Sa-amootu jau'an                                 | سَأَمُوتُ جَوْعًا   | ۵۴   |
|          | My work can't be<br>done without him.  | اس کے بغیر میرا کام<br>نہیں چل سکتا۔ | Laštu astaghni anhu                              | لَسْتُ أَسْتَغْنِي عَنْهُ                                   | ۵۵   |
|          | Hold it tightly  | اسے مضبوطی سے<br>پکڑ لو۔             | Iqbiz alaihi jayyidan                            | إِقْبِضْ عَلَيْهِ جَيِّدًا                                  | ۵۶   |
|          | I am too busy in my<br>work.   | میں اپنے کام میں<br>بہت مصروف ہوں۔   | Ana mashgoolun fi amali                          | أَنَا مَشْغُولٌ جِدًّا فِي عَمَلِي                          | ۵۷   |
|          | I am with you.   | میں آپ کے ساتھ<br>ہوں۔               | Ana ma'ak  | أَنَا مَعَكَ  | ۵۸   |
|          | He is unhappy with<br>you  | وہ آپ سے ناراض<br>ہے۔                | Huwa saaqitun alaik                              | هُوَ سَاخِطٌ عَلَيْكَ                                       | ۵۹   |
|          | How worthy is it to<br>you?  | آپ کے نزدیک اس<br>کی کیا قیمت ہے؟    | Bikam yusaawi indak                              | بِكَمْ يُسَاوِي عِنْدَكَ                                    | ۶۰   |
|          | I don't know   | مجھے اس کا علم نہیں<br>ہے۔           | Laisa li bihi ilm                                | لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ                                      | ۶۱   |
|          | I am apologizing to<br>you or sorry.   | میں آپ سے<br>معذرت کرتا ہوں۔         | A'taziru ilaikum                                 | أَعْتَذِرُ إِلَيْكُمْ                                       | ۶۲   |
|          | I regret it  | مجھے اس پر افسوس<br>ہے۔              | Ana muta-assifun alaih                           | أَنَا مُتَأَسِّفٌ عَلَيْهِ                                  | ۶۳   |

## الكلمات العربية المستخدمة اليومية

| Optional | English  | اردو                                      | Roman                                  | عربي  | S.No |
|----------|--|---|--|---|------|
|          | His dealing is not good  | وہ بے ادب ہے۔                             | Rajulun ghairu tayyib                  | رَجُلٌ غَيْرُ طَيِّبٍ                           | ۶۴   |
|          | I don't like his dealing.  | مجھے اس کی معاملات داری پسند نہیں۔        | La uhibbu wala arza bitta'ammuli m'ahu | لَا أَحِبُّ وَلَا أَرْضُ بِالْتَّعَامُلِ مَعَهُ | ۶۵   |
|          | I didn't see anything beautiful then this/ nothing is better then this | میں نے اس سے خوبصورت کوئی چیز نہیں دیکھی۔ | Maa ra'aytu shai'an ajmala minhu       | مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَجْمَلًا مِنْهُ           | ۶۶   |
|          | Don't get angry  | غصہ نہ کیجیے۔                             | la taghzab                             | لَا تَغْضَبْ                                    | ۶۷   |
|          | Don't be jealous of each other   | ایک دوسرے سے حسد نہ کیجیے                 | La tahaasadoo                          | لَا تَحَاسَدُوا                                 | ۶۸   |
|          | Thank you sir  | میں آپ کا بے حد ممنون ہوں۔                | Mashkoorun min fazeelatikum            | مَشْكُورٌ مِنْ قَضِيَّتِكُمْ                    | ۶۹   |
|          | Beware of places where one can become a victim of false accusations    | تہمت کی جگہوں سے بچو۔                     | Ittaqoo mawaazi'atuhum                 | اتَّقُوا مَوَاضِعَ التَّهْمِ                    | ۷۰   |
|          | I am pleased to meet you   | مجھے آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔               | A'jabanee liqaa'ukum                   | أَعْجَبَنِي لِقَاءُكُمْ                         | ۷۱   |
|          | I hope you will forgive me   | امید ہے آپ مجھے معاف کر دیں گے۔           | Afwan lau samaht                       | عَفْوًا لَوْ سَمَحْتَ                           | ۷۲   |
|          | You are wrong and I am right   | آپ غلط ہیں اور میں صحیح ہوں۔              | Anta mukhtii wa ana museebun           | أَنْتَ مُخْطِئٌ وَأَنَا مُصِيبٌ                 | ۷۳   |
|          | You deserve a punishment   | آپ ملامت کے مستحق ہیں۔                    | Anta taštahiqullu'ma                   | أَنْتَ تَسْتَحِقُّ اللُّؤْمَ                    | ۷۴   |
|          | He had guests at his place.  | اس کے ہاں مہمان آئے۔                      | Nazala bihiz-zaif                      | نَزَلَ بِهِ الضَّيْفُ                           | ۷۵   |
|          | My brother had fever   | میرے بھائی کو بخار ہو گیا۔                | Akhi yu'aani bil humma                 | أَخِي يُعَانِي بِالْحُمَّى                      | ۷۶   |
|          | Bring him to me.   | اسے میرے پاس لاؤ۔                         | Alaiyya bihi                           | عَلَيَّ بِهِ                                    | ۷۷   |
|          | This is disgraceful for you or this humiliating for you.               | یہ آپ کے لیے بہت شرم کی بات ہے۔           | Ala taštahi                            | أَلَا تَسْتَحِ                                  | ۷۸   |
|          | I love you from the bottom of my heart.                                | میں آپ کو نہ دل سے چاہتا ہوں۔             | Uhibbuka min a'maaqi qalbi             | أَحْبَبْتُكَ مِنْ أَعْمَاقِ قَلْبِي             | ۷۹   |



## الكلمات العربية المستخدمة اليومية

| Optional | English  | اردو                                     | Roman                                | عربي   | S.No |
|----------|--|--|--------------------------------------|--|------|
|          | Don't embarrass me in front of other people        | لوگوں کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کیجیے۔     | La tu'ayyirni amaaman-naas           | لَا تُعَيِّرْنِي أَمَامَ النَّاسِ            | ۸۰   |
|          | This is a calamity                                 | یہ مصیبت ہے۔                             | Hazihi museebah                      | هَذِهِ مُصِيبَةٌ                             | ۸۱   |
|          | Show me what you brought.                          | جو آپ لائیں ہیں، وہ مجھے دکھائیے۔        | Arini ma ji'ta bihi                  | أَرِنِي مَا جِئْتَ بِهِ                      | ۸۲   |
|          | He is poetical in word or he is eloquent at speech | وہ کتنا شیریں کلام ہے۔                   | Maa ahlaa kalaamah                   | مَا أَحْلَى كَلَامَهُ                        | ۸۳   |
|          | Avoid negative thoughts about something            | بدگمانی سے بچو۔                          | Ijtaniboo soo'az-zan                 | اجْتَنِبُوا سُوءَ الظَّنِّ                   | ۸۴   |
|          | Give people their due rights humbly.               | کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے                  | Khaaliqinnaasa bikhuluqin hasanin    | خَالِقِ النَّاسِ بِخُلُقٍ حَسَنٍ             | ۸۵   |
|          | I received a letter from my home                   | مجھے میرے گھر کا خط ملا ہے۔              | Wasala ilayya kitaabun min baitee    | وَصَلَ إِلَيَّ كِتَابٌ مِنْ بَيْتِي          | ۸۶   |
|          | Do not delay today's work for tomorrow             | آج کا کام کل پر مت ڈالو۔                 | la tu'akhhir amalal yaumi ilal-ghad  | لَا تُؤَخِّرْ عَمَلَ الْيَوْمِ إِلَى الْغَدِ | ۸۷   |
|          | Whatever you want to do, do it today               | جو کرنا ہے آج کرلو۔                      | E'maloo al-yauma ma shi'tum          | اعْمَلُوا الْيَوْمَ مَا شِئْتُمْ             | ۸۸   |
|          | No one knows the unseen except Allah               | غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔         | La ya'lamul ghaiba illallah          | لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ        | ۸۹   |
|          | We don't know what we have to do tomorrow          | ہم نہیں جانتے، کل ہم کیا کرائیں گے۔      | La nadri maaza naksibu ghadan        | لَا نَدْرِي مَاذَا نَكْسِبُ غَدًا            | ۹۰   |
|          | Disclosing privacy is ignorance                    | راز فاش کرنا نادانی ہے۔                  | Ifshaa'us-sirri jahulun              | إِفْشَاءُ السِّرِّ جَهْلٌ                    | ۹۱   |
|          | Honesty is dear to Allah or Allah loves honesty    | سچائی اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔           | As-sidqu mahboobun ilallaahi ta'aala | الصِّدْقُ مَحْبُوبٌ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى   | ۹۲   |
|          | I have some important work today                   | آج مجھے ضروری کام ہے۔                    | Al-yaumu indi shughlun haammun       | الْيَوْمَ عِنْدِي شُغْلٌ هَامٌّ              | ۹۳   |
|          | Today we had breakfast with one of our friends     | آج ہم نے اپنے ایک دوست کے پاس ناشتہ کیا۔ | Al-yauma aftarna inda saahibin lana  | الْيَوْمَ أَفْطَرْنَا عِنْدَ صَاحِبٍ لَنَا   | ۹۴   |
|          | I have a lot of work                               | مجھے بہت کام ہیں۔                        | Indi ashghaalun kaseceratun          | عِنْدِي أَشْغَالٌ كَثِيرَةٌ                  | ۹۵   |

## الكلمات العربية المستخدمة اليومية

| Optional | English  | اردو                                   | Roman  | عربي   | S.No |
|----------|--|--|--|--|------|
|          | Don't talk in the masjid                             | مسجد میں باتیں مت کیجیے۔               | La tatakallamoo fil masjid                     | لَا تَتَكَلَّمُوا فِي الْمَسْجِدِ                      | ۹۶   |
|          | May Allah bless your time with all goodness!         | اللہ تمہارے اوقات مبارک کرے۔           | As'adallaahu auqaatak                          | أَسْعَدَ اللَّهُ أَوْقَاتَكَ؟                          | ۹۷   |
|          | How is your health?                                  | آپ کی صحت کیسی ہے۔                     | Kaifa sihhatuk?                                | كَيْفَ صِحَّتُكَ؟                                      | ۹۸   |
|          | Thanks to Allah, now I am all right.                 | اللہ کا شکر ہے اچھا ہوں۔               | Ana tayyibun, Alhamdulillah                    | أَنَا طَيِّبٌ، أَلْحَمْدُ لِلَّهِ                      | ۹۹   |
|          | How is your family?                                  | بال بچے کیسے ہیں؟                      | Kaifa haalul aaeelah                           | كَيْفَ حَالُ الْعَائِلَةِ                              | ۱۰۰  |
|          | The weather has become bad.                          | موسم خراب ہو گیا۔                      | Saaraal jawwu raade'an                         | صَارَ الْجَوُّ رَدِيئًا                                | ۱۰۱  |
|          | I am shivering from cold                             | میں سردی سے کانپ رہا ہوں۔              | Arta'idu minal baradi                          | أَرْتَعِدُ مِنَ الْبَرْدِ                              | ۱۰۲  |
|          | Today's night would be a moonlight night bi-iznillah | آج کی رات چاندنی رات ہوگی۔ باری تعالیٰ | Hazihil lailatu takoonu muqmiratan bi-iznillah | هَذِهِ اللَّيْلَةُ تَكُونُ مُقْمِرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ | ۱۰۳  |
|          | Read out your lesson to me                           | مجھے اپنے اسباق سنائیے۔                | Sammi'ooni duroosakum                          | سَمِّعُونِي دُرُوسَكُمْ                                | ۱۰۴  |
|          | I write with a pen                                   | میں قلم سے لکھتا ہوں۔                  | Aktubu bilqalami                               | أَكْتُبُ بِالْقَلَمِ                                   | ۱۰۵  |
|          | This paper is rough                                  | یہ کاغذ کھردرا ہے۔                     | Haazal qirtaasu khushnun                       | هَذَا الْقِرْطَاسُ خُشْنٌ                              | ۱۰۶  |
|          | Hold this pencil.                                    | پنسل پکڑیے۔                            | Khuz qalamar-rasaasi                           | خُذْ قَلَمَ الرَّصَاصِ                                 | ۱۰۷  |
|          | The bell rang  | گھنٹی بج گئی۔                          | Duqqal jarasu                                  | دُقَّ الْجَرَسُ  | ۱۰۸  |
|          | I stayed up all night                                | میں ساری رات جاگا۔                     | Sahirtul laila kullaha                         | سَهَرْتُ اللَّيْلَ كُلَّهَا                            | ۱۰۹  |
|          | He wakes up early in the morning                     | وہ صبح سویرے جاگتا ہے۔                 | Huwa ya'staiqizu mubakkiratan                  | هُوَ يَسْتَيْقِظُ مُبَكِّرَةً                          | ۱۱۰  |
|          | You wake up after sunrise.                           | تم سورج نکلنے کے بعد جاگتے ہو۔         | Ta'staiqizu ba'da tuloo'ish-shams              | تَسْتَيْقِظُ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ                  | ۱۱۱  |

## الكلمات العربية المستخدمة اليومية

| Optional | English  | اردو   | Roman   | عربي  | S.No |
|----------|--|--|---|---|------|
|          | Remember Allah while standing, sitting or lying down | کھڑے، بیٹھے اور لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کیجیے۔       | Uzkurullaaha ta'aala qiyaaman wa qu'oodan wa ala junoobikum | أذْكُرُوا اللَّهَ تَعَالَى قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ | ۱۱۲  |
|          | Summer season is over.                               | موسم گرما گزر گیا۔                                 | Maza faslus-saif  | مَا مَيَّ فَصَلُّ الصَّيْفِ   | ۱۱۳  |
|          | I have no relation to this                           | اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔                       | Haza la yata'allaqu bi                                      | هَذَا لَا يَتَعَلَّقُ بِي   | ۱۱۴  |
|          | These things are all cheap                           | چیزیں پوری سستی ہیں۔                               | Al ashyaa'au kulluha rakheesah                              | الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا رَخِيصَةٌ                                     | ۱۱۵  |
|          | How much have you bought it for?                     | آپ نے یہ کتنے میں خریدا ہے؟                        | Bikam ish'taraita haza                                      | بِكَمْ اشْتَرَيْتَ هَذَا  | ۱۱۶  |
|          | Everything is expensive                              | ہر چیز مہنگی ہے۔                                   | Kullu shai'in ghaali jiddan                                 | كُلُّ شَيْءٍ غَالِي جِدًّا  | ۱۱۷  |
|          | I would return back to my family very soon           | معتدب میں اپنے گھر والوں کی طرف لوٹوں گا۔          | Saufa arji'au ila ahlee                                     | سَوْفَ أَرْجِعُ إِلَىٰ أَهْلِي                                      | ۱۱۸  |
|          | What you said has not been understand by me          | آپ کی بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔                  | La afhamu kalaamak  | لَا أَفْهَمُ كَلَامَكَ  | ۱۱۹  |
|          | I did not understand what you said                   | میں آپ کی بات نہیں سمجھا۔                          | Ma fahimtu kalaamak   | مَا فَهِمْتُ كَلَامَكَ  | ۱۲۰  |
|          | I want bread   | میں روٹی چاہتا ہوں۔                                | Ureedul khubz   | أُرِيدُ الْخُبْزَ   | ۱۲۱  |
|          | What is your occupation?                             | آپ کیا کام کرتے ہیں؟                               | Maa Mihnatuk  | مَا مِهْنَتُكَ  | ۱۲۲  |
|          | I have been in this city since a month.              | مجھے اس شہر میں ایک مہینہ ہو گیا                   | Shahrin kaamil qad maza fi hazal makaan                     | شَهْرًا كَامِلًا قَدْ مَضَىٰ فِي هَذَا الْمَكَانِ                   | ۱۲۳  |
|          | I don't have money.                                  | اب اس وقت میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔                  | Maa Indi Maal   | مَا عِنْدِي مَالٌ   | ۱۲۴  |
|          | I was searching this one only.                       | میں یہی تلاش کر رہا تھا۔                           | Wa kuntu abhasu haaza huwa munzu zamaan                     | وَكُنْتُ أَبْحَثُ هَذَا هُوَ مُنْذُ زَمَانٍ                         | ۱۲۵  |
|          | Thank you very very much                             | آپ کا بہت بہت شکریہ / اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے | Jazakallaahu khairan  | جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا   | ۱۲۶  |
|          | I have a good opinion about you                      | آپ سے متعلق میرا گمان بہت اچھا ہے۔                 | Anta saalihun fi husni zanni                                | أَنْتَ صَالِحٌ فِي حُسْنِي ظَنِّي                                   | ۱۲۷  |



## معلم گائیڈ

### قواعد کی معرفت و تطبیق:

- پہلے قاعدے بتا کر مثالیں نہ سمجھائیں بلکہ پہلے مثالیں سمجھا کر پھر قواعد سمجھائیں۔
- مثلاً: ر جل اور الر جل، یہ دو لفظ بورڈ پر بڑے حروف میں لکھ کر طلبہ سے پوچھیں کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ اس کے بعد قاعدہ سمجھائیں۔
- اسی طرح مسلم اور مسلمیہ لکھ کر فرق بتانے کے لیے بولے اس کے بعد قاعدہ سمجھائیں۔
- بچوں کو قرآنی آیات سے connect کرتے ہوئے قواعد سمجھائیں، اس طرح بچوں کا قرآن سے تعلق بڑھے گا۔
- بچوں کے فہم کے مطابق جو آیات سمجھ میں آتی ہیں وہ انہیں یاد کرائیں اور سمجھائیں۔
- پارے عم یا سورۃ الفیل تا سورۃ الناس، قواعد کو fit کر کے سمجھائیں۔

### حفظ الکلمات العربیة:

- اس کتاب میں موجود کلمات کے ساتھ ان کے اضا اور ہم معنی نئے کلمات بھی اپنی طرف سے Add کر کے طلبہ کو دیے جائیں اور ان کا استعمال کر کے بچوں کو سکھایا جائے۔
- مثلاً: بین (یعنی from) کا استعمال اس طرح کر کے بتائیں:
- خرجت من الفصل، خرجت من المسجد، خرجت من الدکان، خرجت من السوق، خرجت من الملعب۔۔۔
- دوسری مثال: ذهبت الی المسجد، ذهبت الی المیدان، ذهبت للعمرة الی السعودیة۔۔۔
- بچوں کو ابھی سے ہر لفظ کا usage سکھایا جائے۔

### المحادثات والتعبیرات:

- اس کتاب میں نمونے کے طور پر کچھ محادثات دیے گئے ہیں، جب یہ یاد ہو جائیں تو اس pattern کے اور بھی الفاظ اضافہ کر کے یاد دلائیں۔
- الفاظ change کرتے جائیں اور جملے بدل بدل کر مشق کرائیں، اپنی جانب سے بھی اور طلبہ کی جانب سے بھی۔
- Audio System لا کر بچوں کو روزانہ Arabic Audio سناتے رہیں۔
- آڈیو کا استعمال نہایت اہم اور ضروری ہے، بچے صرف کتابیں نہ دیکھیں بلکہ سنتے بھی رہیں۔
- Arabic Cartoon میں جو گفتگو ہو رہی ہے اسے بھی پیش کریں۔
- Askislampedia.com کے kids section میں
- Arabic Audios & Videos موجود ہیں، اسی طرح
- Islamweb.net کے kid's section سے بھی طلبہ کو سناتے رہیں۔



## صحۃ النطق:

بچوں کو حفظِ حدیث پر بھی ابھارا جائے۔ عربی پڑھتے ہوئے عجمیت بالکل نہ آئے، تجوید اور عربک لحن و لہجہ کا خاص خیال رکھ کر بچوں کو سکھائیں۔

## Special track system:

نوٹ: بعض طلبہ درمیانِ کلاس سے حاضر ہوتے ہیں یعنی عربی کی ابتدائی کلاس میں جو پڑھایا گیا اس سے واقف نہیں رہتے، ایسے طلبہ کے لیے شیخ ارشد بشیر مدنی حفظہ اللہ کے YouTube Rhymes سنا لیں جو 313 الفاظ و معانی پر مشتمل ہیں اور ساتھ ہی Vocabulary Nur to UKG کتاب ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھائیں۔

شیخ ارشد بشیر مدنی حفظہ اللہ کی کتابیں ڈاؤن لوڈ کرنے کی ویب سائٹ ہے: [www.askmadani.com](http://www.askmadani.com)

### Knowing the Rules:

- Do not teach the rules first and then give examples, instead, give the examples first and then lay out the rule.
- For Example: الرجلَ and رجلاً, first explain the example and then state the rule.
- In a same way, the differentiation should be explained first with an example like مسلم and مسلمة and then the rule should be explained.
- You should connect the students with the verses from the Qur'an while explaining the rule. This will help in increasing the connection of the students with the Qur'an.
- Enable the students to memorize the related verses of the Qur'an according their level of understanding.
- You should explain the Juz Amma or at least from Surah Feel to Surah Naas in accordance with the rules taught.

### Learning the Arabic Vocabulary:

- You should use other vocabulary along with the vocabulary give in the book and make new sentences to explain to the students. Opposites should also be used while explaining and teaching the students.
- For Example: من (from) should be used like the following:
  - خرجت من الفصل. (I came out from the classroom)
  - خرجت من المسجد. (I came out from the masjid)
  - خرجت من الدكان. (I came out from the shop)
  - خرجت من السوق. (I came out from the market)
  - خرجت من الملعب. (I came out from the playground)
- Each word should be taken, and its usage should be explained.
- Another example: ذهبت الى المسجد. (I went to the masjid), ذهبت الى الميدان. (I went to the Ground), ذهبت للعمرة الى السعودية. (I went for Umrah to Saudi).
- They should be taught all the usages from now itself and it should not be delayed.

### Conversations:

- Some examples of conversations have been given and once the pattern has been grasped, more words should be added and made to memorize.
- The words should be changed each time and practiced by both the teacher and the student.
- Audio system should be setup and everyday Arabic audios should be played.
- Using audios is very important since the students should not only look at the books but also listen to the audios.
- Arabic Cartoons should also be played so that it becomes entertaining for them.
- The Arabic audios and videos could be accessed from Islamweb.net's Kids section and also from Askislampedia.com's Kid's section. The students could listen from them.



### Correct Pronunciation

- The kids should also be encouraged to memorize the Hadeeth. The pronunciation should be proper and read like the Arabs with proper tajweed and style of the Arabs. The should not speak Arabic in a foreign way.

### Special Tracking System

Note: Some students attend the classes late or they join the class after missing the first few classes then they should be made to listen to Shaykh Arshad Basheer Madani's rhymes, and the Vocabulary book from Nursery to UKG should be downloaded and taught. The books could be downloaded from : [askmadani.com](http://askmadani.com)





## Factors aiding in the strengthening of our communication skills:

- Accurate Pronunciation
- Good Vocabulary
- Prepared phrases
- Some Maxims of 'Nahw' and 'Sarf' (Grammar)  
They help in comprehending the Language of Quran, Sunnah and Stories.
- Specifically, those Arabic discussions and expressions which were already prepared for the easiness of learners.

It is necessary to read, memorize and repeat all of these notes. One should create an environment by recording his own speech. Therefore, we have decided to mention basic sciences for aiding the discussions.



## قوت محادثہ کے لیے:

- ◆ اچھے لہجے (اصول تجوید)،
- ◆ اچھے کلمات (vocabulary)،
- ◆ اچھے بنے بنائے محادثات،
- ◆ کچھ قواعد نحو و صرف،
- ◆ قرآن و احادیث اور قصص کا فہم ممد و معاون ہوتا ہے۔
- ◆ خاص طور سے بنے بنائے مرتب عربی محادثات و تعبیرات

ان سب کو پڑھنا، یاد کرنا، دہرانا اور اپنا ہی آڈیو سن کر ماحول بنانا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے اس کتاب میں محادثات کے لیے ممد و معاون علوم و مبادیات کا بنیادی طور پر ذکر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے

## ایک نئی زبان سیکھنے کے لیے 6 زاویوں پر توجہ ضروری ہے

انیت یا ماہولیت ہو تو قواعد، نحو، زبان، تلفظ، عربیت کا احساس شتم ہو جاتا ہے۔

Arshad Bashier Madani Notes



مباحثات و باہت کا مرحلہ بہت بعد کا ہے اس کے علاوہ دیگر مذکورہ زاویوں پر ابتدائی سے توجہ دی جائے۔

مباحثات ضرور حاصل کیجئے اور بار بار سنیے اس سے (1) انیت کا احساس شتم ہوگا، (2) انیت پیدا ہوگی، (3) اسلوب کا پتہ چلے گا، (4) ماحول قائم ہوگا،

(5) کان کے ذریعہ پڑھنا احساس و شعور سے گزرتے ہوئے زبان سے جاری ہونا آسان ہو جائے گا۔ ان شاء اللہ

مباحثات جو بہرہ ہوتا ہے وہ اکثر گونا گویا ہوتا ہے لہذا کان کو عربی سیکھنے کا موقع دیجیئے۔

مباحثات سیکھنے سے اور مادری زبان بولنے لگتا ہے۔

مباحثات ماحول ہونا ضروری ہے، CD سے ماحول بنایا جا سکتا ہے یا خود اپنے موبائل سے ریکارڈ کر کے اور سنیے۔

We need to mainly focus on six dimensions while learning a new language:

01} Listening Power (CD of Audio Phrases) + Environment Our despair and the feeling of strangeness will be dissipated when our tongue starts articulating (on its own). We should record our own voice and frequently listen to it.

02} Memorization of Phrases and Prepared Talks + Practice This will aid in the removal of hesitation.

03} Basic Tajweed (Pronunciation and Style) It is necessary to possess the modality of the Arabic language in order to get a satisfied taste and enjoy the speech for a long time

04} Intonation + Speed This will increase our attachment for the style of Arabic language.

05} Some Basic Grammar + Elocution A lot of attention must be paid to 'Listening' when compared to 'Grammar'. However, it i.e. the portion of grammar should not be ignored.

06} Vocabulary

The distance travelled by a vehicle will be dependent on the amount of fuel it has consumed. Similarly, vocabulary plays the role of fuel in learning a language.

- The science of eloquence and conciseness of speech is on a far level. Besides this, one must strongly focus on the above mentioned dimensions from the beginning stage.
- Make sure that you obtain the CD and frequently listen to it. It will result in the removal of the feeling of strangeness, increase of attachment towards the language, awareness of the style of the language, and establishment of environment. It will pass from the ear through the curtains of feeling and consciousness; Thereby making it easy to flow from the tongue. [In'sha'Allaah]

- The one who is deaf is also a dumb guy, by default. Therefore, provide the opportunity for your ears to listen the language of Arabic.
- An infant speaks his mother language through listening.
- It is from the requisites to create an environment of listening and speaking while learning the language. It could be done using cd, listening to your own recordings.



## 9 نصیحتیں

Arshad Basheer Madani Notes  
(کسی بھی زبان میں گفتگو کے لیے)

کسی بھی زبان خصوصاً عربی زبان میں گفتگو سے قبل مندرجہ ذیل نصیحتوں پر توجہ دی جائے تو ان شاء اللہ عربی گفتگو میں کافی مدد ملے گی اور گفتگو میں پائی جانے والی رکاوٹوں کو دور کیا جاسکتا ہے۔ ان شاء اللہ، باذن اللہ۔  
اللہ کی مدد اور اس سے دعا کے بعد ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس دعا کو ضرور یاد رکھیں اور پڑھتے رہیں:  
اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا، وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا. (السلسلة الصحيحة: 2886)



عربی میں گفتگو کی آسانی کے لیے:

1 عام طور پر گرامر پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے جبکہ زیادہ توجہ سننے (listening power) اور استعمال (practice) کرنے پر دینی چاہیے۔

Arshad Basheer Madani Notes



2 مادری زبان والے گرامر کم جانتے ہیں لیکن گفتگو کر لیتے ہیں لہذا مادری زبان والوں سے بار بار سبق لینا سیکھیں۔



3 اپنے کان کو سا کر ماؤس کریں اور Prepared Phrases کو غور سے سن کر تکرار کرنے کی کوشش کریں۔ خود اپنے موبائل میں ریکارڈ کر کے بار بار سنئے


Arshad Basheer Madani Notes



مرحبا  
صباح الخير  
مساء الخير  
أهلا وسهلا  
وداعا  
كيف حالك؟

Vocabulary سے زیادہ Phrases یاد کرنے پر توجہ دیں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک طرف Vocabulary یاد کرتے ہیں دوسری طرف گرامر لیکھتے ہیں پھر اپنی طرف سے دونوں کو جوڑ کر جملے بنا کر گفتگو کی کوشش کرتے ہیں اس سے ذہن پر بار بہت پڑتا ہے، مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن اگر بنے بنائے جملے یاد کر لیں تو آپ جلدی اپنے مافی الضمیر کو ادا کر سکیں گے۔ لوگ بھی سمجھیں گے اور Response بھی ملے گا، بات کرنے میں مزہ بھی آئے گا۔

4



اچھی بات کرنے کے لئے Priority کا خیال رکھیے،

5



اکثر دیکھا گیا ہے کہ زبان سیکھنے کے لیے لکھنے کی exercise تو بہت کر لیتے ہیں، لیکن بولنے کی exercise پر کم ہی توجہ دیتے ہیں۔ نتیجہ میں لکھنے (writing power) میں تو مہارت آ جاتی ہے لیکن بولنے (محادثہ) (speaking power) میں آدمی کمزور ہو جاتا ہے۔

6



سننے اور بولنے کا ماحول (Environment) ضرور بنائیے۔  
 دکاندار کا کردہ حصہ سننے سے ہے  
 زبان دانوں سے دوستی  
 ان سب کے ذریعے جملے پھرتے سننے سے جو آپ phrases یاد کر رہے ہیں۔

7

♦ عرب لوگ اردو میں بات کر لیتے ہیں جب وہ کثرت سے ہندوستانوں سے ملتے ہیں، اس مثال سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ سننے کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ ہم ہندوستان میں خطبے نہیں سنتے نہ عربی دروس نہ عربی گفتگو نتیجہ میں عربی میں لکھنے والے تو بہت مل جاتے ہیں لیکن عربی میں بات کرنے والے بہت کم ملتے ہیں۔

♦ آپ جانتے ہیں جو بہرہ ہوتا ہے وہ default by گوگلا بھی ہوتا ہے۔ جو دیکھتا ہے نظروں اور تدر و فہم کی مدد سے وہ لکھنے کے قابل بن جاتا ہے اور جو سننے میں powerful ہوتا ہے وہ ابلتے میں بھی powerful ہوجاتا ہے۔




آپ کو عربی لکھنے یا کسی بھی زبان کو لکھنے کے لیے کہیں جانا ضروری نہیں ہے بلکہ آپ اپنا ماحول خود بنائیے، اپنے اطراف میں لوگوں کے ساتھ دوستی قائم کیجیے اور ماحول بنائیے جو آپ سے وہی زبان میں بات کریں جس زبان کو آپ لیکھنا چاہتے ہیں یا CD کثرت سے سنئے۔

8

♦ صرف انگلش اسکول یا عربی اسکول جانے سے بات کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہو سکتی بلکہ ماحول سے بولنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ بعض اوقات بچے انگلش یا عربی اسکول بلکہ انگلش یا عربی ملک میں ہوتا ہے لیکن اپنی ہی زبان والوں سے ملتا جلتا ہے تو بات نہیں آتی۔ اس سے بچہ چلا کہ ماحول کا ہونا بھی ضروری ہے اور ماحول سے فائدہ اٹھانا بھی ضروری ہے، جس زبان کے لکھنے کی ضرورت ہے اس زبان والوں سے بات کرنے کی کوشش کی جائے۔

♦ مند جانتا ہے کہ کسی کو بھی راتوں رات کوئی زبان نہیں آسکتی، پھر عربی لکھنے میں شرمانے کی کیا وجہ ہے؟ مفید علم کے حاصل کرنے میں شرمانا اپنے آپ کو پیچھے کرنے کے مترادف ہے اور غیر ضروری شرمیلا پن انسان کی ترقی میں رکاوٹ ہے۔



Material اچھا ہونا بہت ضروری ہے اس بارے میں بھی کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، کہتے ہیں کہ Practice سے آدمی Perfect بن جاتا ہے لیکن اگر غلط Practice ہو جاتی ہے تو غلط چیز میں Perfect بن جاتا ہے، اس لیے material اچھا ہونا ضروری ہے۔

9

♦ کچھ لوگ نیز سنتے ہیں آخر میں کچھ ایسے political word استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں جو عام پبلک کے سمجھ کے باہر ہوتے ہیں۔

♦ کچھ لوگ غیر مادری زبان والوں سے بات کر کے practice کرتے ہیں جو ایک حد تک صحیح ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ لکھنے کی شروعات تو ہو جاتی ہے لیکن یاد رہے اس فائدہ کے ساتھ ساتھ نقصان بھی ہے جس پر کنٹرول کرنا لازمی ہے وہ یہ ہے کہ نئے لکھنے والے ایک دوسرے کی غلطی کو بھی سمجھ کر عادت میں شامل کر لیتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچاتی ہے۔ اسی لیے ہمیشہ بہتر سے بہتر material کی تلاش میں رہیں اور اپنے غلطیوں کو کنٹرول کرتے رہیں اور سستی نہ برتیں۔

## 9 Advices to Learn A Language

To learn any language, especially the Arabic Language, if one focuses on the following advices then In'sha'Allaah, a lot of help will be received in learning the language and the difficulties in conversation will be removed.

[In'sha'Allaah, Bi'iz'nillaah]

All difficulties become easy after invoking Allaah and seeking his help. Hence always remember the following supplication:

اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا ، وَأَنْتَ إِنْ شِئْتَ جَعَلْتَ الْحَزْنَ سَهْلًا  
(السلسلة الصحيحة 2886)

اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا  
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الوادعي | المصدر : الصحيح المسند  
الصفحة أو الرقم : 72 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

1

Generally, a lot of attention is paid to Grammar while learning the new language. However, it should be diverted to 'Listening' and 'Practicing' the new language.



2

The people who are native speakers of the Language are widely unaware of the grammar of their language but they articulate fine discussions, hence one should observe them and take lessons from them.



3

You should make your ears accustomed to the language and the previously prepared phrases should be listened with good attention and pondered upon. You should record your own voice and frequently listen to it.




4

Focus should be given on learning phrases more than the vocabulary. Generally, we see that a student learns the vocabulary on one hand and learns grammar on the other hand. Then, he tries to compose a sentence which creates a lot of stress on the mind. This causes despair. However, if you learn 'readymade' phrases then it would be easier for you to speak with flawless grammar. Moreover, people will also understand and they will respond to you. It will also make learning and speaking Arabic language fascinating.



5

One should prioritize to speak pleasantly.



6

It has been seen that while learning the language a lot of focus is given on writing exercises and it is done a lot, however there is no focus on oral exercises. Hence, a person becomes prolific in writing the language but he becomes weak in his speaking skills.





7

One should create an environment of listening and speaking the language. It could be done using headsets, cd, mobile phone, making friends with the native speakers, listening to your own recordings. Hence, you should keep listening to the phrases which you are memorizing while walking, travelling, etc...



We have seen that Arab people are able to speak Urdu due to their continuous listening of the language. You can understand a lot with this example that listening has so much power to it. In India, we neither listen to Arabic Lectures nor do we listen to Arabic conversations. Hence, we could find a lot of people who are able to read and write Arabic but we find few people who are able to speak Arabic.

You know that the one who is deaf is also a mute person, by default. The one who learns using his vision and intellect will be able to read and write the language. However, the one who has powerful listening skills, he will also end up in gaining powerful speaking skills.

It is not mandatory to join an English or Arabic School to learn a language. One can learn the ability to converse in a language by creating an environment which will help you in speaking the desired language. Such as making friends who speak the language which you want to learn, frequently listening to audio systems etc...

Many a times, a child goes to an English or Arabic School, or maybe he lives in an English or Arabic country. However, he keeps meeting only those people who speak his language, so he will be unable to converse in the required language. Hence, we got to know that an environment is also necessary and utilizing that environment is also obligatory. So, you should also try to converse with the people of that language. [The language which you are intending to learn]

An Intelligent person knows, that no one can learn a language overnight, then why should one shy away from learning Arabic? Shying in seeking knowledge will make you backward and unnecessary shyness becomes an obstacle in ones development.



8

You need not go anywhere to learn Arabic or any other language. For that matter; you should create your own environment. You should make friends with such people who would help you in learning the language by speaking to you in that language only or you could listen a lot to the Arabic Cd's and audios.



9

The study material should also be exemplary. A lot of mistakes occur in this section. It is said that Practice makes a man perfect. Hence, if he practices a wrong thing, he becomes perfect in it. Hence, material should also be up to the mark.



Some people listen to the news to learn the language and hence start to use such political words which are not understood by the common people. Some people practice the language by speaking with non-native people, which is right to some extent. Its benefit is that one begins his journey to learn, however there is a lot of harm which is necessary to be controlled. It so happens, that speaking with such people, the mistakes are made into a habit. Hence, one should always try to learn with the best material and keep working hard and avoid laziness in the pursuit of learning the language.









**ASK ISLAM PEDIA**  
GATEWAY FOR ISLAMIC INFORMATION

Free Online Islamic Encyclopedia

For More Details Contact

**Arshad Madani +91-92906 21633**

**Mansoor +91-93909 93901**



Contact @

[www.abmqurannotes.com](http://www.abmqurannotes.com) | [www.askislampedia.com](http://www.askislampedia.com)  
[www.askmadani.com](http://www.askmadani.com)

Publisher & Printer

**ABM Print Time**

**+91-99890 22928**

[abm.printtime@gmail.com](mailto:abm.printtime@gmail.com)